

جادو، جنائش، آسیب اور ظریب کی حقیقت،
ان سے بچاؤ کی حفاظتی تا ایسا اور طریقہ عہد لاج

جادو، جنائش سے بچاؤ کی کتاب



www.KitaboSunnat.com



تالیف و تحریر:
حافظ عربان ایوب لاہوری
از تحقیقیں ایادیات:
علامہ ناصر الدین البانی

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب و سنت ذات کام پر دستیاب تمام الیکٹر انک کتب ←

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔ ←

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload) ←

کی جاتی ہیں۔ ←

دعویٰ مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندرجات نشوواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔ ←

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ ←

ان کتب کو تجارتی یا مگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔ ←

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر جلیل دین کی کاؤنٹریں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابط فرمائیں۔ ←

جہاد، جنائز، آسیدب اور نظر بد کی حقیقت
ان سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر اور طریقہ علاج

تفہیم کتاب و منت

15

کتاب اوقیان من الحزن والسر

جادو حنای سے بچاؤ کی کتاب



www.KitaboSunnat.com

تألیف شرح:

ما فظ عرانت ایوب الھوڑی

از تحقیق افادات:

علامہ ناصر الدین البانی



جملہ حقوق، گرین فیلڈ، بیکری، لاہور، پاکستان ۵۰۰۰۶



COPY RIGHT

(All rights reserved)

Exclusive rights by **Fiqh-ul-Hadith Publications Lahore Pakistan**. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

تاریخ اشاعت _____ 2010ء
مطبوع _____ چاچا حمید پرنسپل لالہور

ناشر

فیض الحدیث پبلیکیشنز

لالہور - پاکستان

Phone: 0300-4206199

E-mail: fiqhulhadith@yahoo.com

Website: www.fiqhulhadith.com

بُلْنے کا پتہ

نعمانی کتب خانہ

حق سٹریٹ آرڈو بازار لالہور
Phone: 042-7321865

E-mail: nomania2000@hotmail.com

دِسْمَرْ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

پیش لفظ

جادو اور آسیب زدگی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کتاب و سنت میں متعدد مقامات پر جادو، جنات کا ذکر موجود ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جادو کا ذکر ہے جبکہ سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ کھف اور دیگر متعدد سورتوں کے علاوہ ایک مکمل سورت (سورہ جن) جنات کے نام سے موجود ہے اور ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ فرمان نبوی کے مطابق جادو سات ہلاک کرنے والی اشیا میں سے ایک ہے اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود نبی کریم ﷺ پر بھی جادو ہوا تھا۔ بعض احادیث میں جنات نے پناہ مانگنے کا ذکر ہے اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں تو نبی کریم ﷺ کا جنات سے گفتگو کرنے کا ذکر موجود ہے۔ کتاب و سنت کے انہی دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہے عظام اور سلف صالحین نے نہ صرف جادو جنات کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے منکرین کے اعتراضات کا شانی جواب بھی دیا ہے۔

واضح دلائل اور اہل علم کی تصریحات کے باوجود ہمیشہ ایک طبقہ ایسا بھی رہا ہے جو جادو، جنات کی حقیقت کا منکر ہے اور جادو کی اثرات کو تو ہم پرستی اور جنات کو بدی کی طاقتلوں وغیرہ سے تغیر کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ان حضرات کی رائے شرعی نصوص، امت کے اجماع اور دین کے مسلمہ امور کے خلاف ہے اس لیے ہرگز قابل قبول نہیں۔

بہر حال دور حاضر میں جہاں ایک طرف بے روزگاری اور معاشی و گھر بیلو حالات سے نگل سادہ لوح مخصوص اور ضعیف العقیدہ لوگ اپنی پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے جادو ٹونہ تک کرانے کو تیار ہو جاتے ہیں وہاں دوسری طرف نام نہاد عاملوں، پروفیسروں، نجومیوں، جادوگروں، قیافہ شناسوں، روحانی ڈاکٹروں اور جعلی پیروں نے بھی ہزاروں کی تعداد میں اڈے بنار کھے ہیں۔ ایک محمد و داندازے کے مطابق صرف لاہور میں پانچ ہزار سے زیادہ عاملوں کے ڈرے ہیں۔ جو قد آدم اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور تعویذوں کا اثر، محبت میں ناکامی، بے اولادی، شوہر کو راہ راست پر لانا، بچوں کی شادی، ترقی یافتہ ملک کی شہریت کا حصول، انعامی چانس، امتحان میں کامیابی اور اولاد کی نافرمانی جیسے ہر مسئلے کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں۔

یہ لوگ نہ صرف مصائب کا شکار عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ ان کے خون پینے کی کمائی بھی لوٹتے ہیں۔ اصلی رعنیان سے توعید لکھنے کے لیے بھاری رقم وصول کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو زہر سے لکھا ہوا توعید پانی میں گھول کر پینے کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں پینے والا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی تو زہر کے اثر سے پاگل بھی ہو جاتا ہے۔ عورتوں کی ایک بڑی تعداد گھر یلو گھڑوں (شوہر کی ناچاتی یا ساس سسر کا مسئلہ یا نندوں کے طعنوں وغیرہ) سے تنگ آ کر ان کے پاس جاتی ہے پھر ان میں سے اکثر اپنے زیورات کے ساتھ ساتھ عزت بھی گواہیتھی ہیں۔ جھوٹے اور جاہل عامل بعض اوقات جن اتارنے کے لیے خواتین کو گرم سلاخیں لگاتے ہیں اور ڈنڈے بھی مارتے ہیں جس کے نتیجے میں شفایا ب ہونے کی بجائے مریض خود ہی بلاک ہو جاتا ہے۔

یہ اور اس جیسی دیگر تکلیفوں میں لوگ اس وجہ سے بنتا ہوتے ہیں کیونکہ وہ کتاب و سنت کی روشن تعلیمات سے جاہل ہیں۔ انہیں یہ علم ہی نہیں کہ جادو اور آسیب سے بچاؤ کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اگر کسی پر جادو کی یا جنتی مدد ہو تو اس کا کیسے علاج کرنا چاہیے اور کیسے معانع سے رجوع کرنا چاہیے؟ عصر حاضر کی اسی اہم ضرورت کے پیش نظر اس کتاب "جادو، جنات سے بچاؤ کی کتاب" کو ترتیب دیا گیا ہے۔

اس میں جہاں جادو جنات اور نظر بد کی حقیقت کو کتاب و سنت کے دلائل اور ائمہ سلف کی آراء کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے وہاں جادو اور آسیب زدگی کے منکرین کے اعتراضات کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ پھر جادو جنات اور نظر بد سے بچاؤ کی پیشگی احتیاطی تداہیر کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا شرعی علاج بھی تجویز کیا گیا ہے۔ یقیناً ان تداہیر اور شرعی طریقہ علاج کو کچھ کر ہر مسلمان جعلی عاملوں اور جھوٹے پیروں کا رخ کرنے کی بجائے خود بھی جادو، آسیب اور نظر زدہ کا علاج کر سکتا ہے اور تھوڑی سی محنت سے ایک ماہر روحانی معانع بھی بن سکتا ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے لوگوں کی اصلاح و فلاح کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

"وما تو فيقي إلابالله عليه تو كلت وإليه انيب"

کتبہ

حافظہ عمران ایوب لاہوری

بتاریخ: جولائی 2010ء، بمطابق: شعبان 1431ھ

فون: 0324-4474674

ای میل: hafzimran_ayub@yahoo.com

ویب سائٹ: www.fiqhulhadith.com

فہرست

صفحہ

عنوانات

جادو کی حقیقت اور اس کا علاج

پارل

ب علمی فصل: جادو کا مفہوم

15 جادو کا لغوی مفہوم
16 جادو کا اصطلاحی مفہوم
17 جادو کی اقسام
18 جادو کرنے کا طریقہ
19 جادو کی چند گیر اقسام
19 علم نجوم
20 کہانت و قیافہ شناسی
20 ○ جنات آسمان سے کیسے خریں چراتے ہیں؟
21 ○ کامن و قیافہ شناس کے پاس آنے کا حکم
21 ○ کامن کی کمائی کا حکم
21 گرہوں میں پھونکنا
21 سحر بیانی
22 چفل خوری
22 جادو، کرامت اور مجرہ میں فرق

دوسرا فصل: جادو کا دخود

23 آیات تقریباً نیکی روشنی میں جادو کا اثبات
25 احادیث بنویہ کی روشنی میں جادو کا اثبات
26 اہل علم کے اقوال و فتاویٰ کی روشنی میں جادو کا اثبات

27 ★ جادو کے منکروں اور ان کی تردید

نہیٰ صدھ: کیا نبی ﷺ پر جادو واقع ہے؟

30 ★ حدیث صحیح بخاری
31 ★ اہل علم کی آراء
31 ○ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
32 ○ امام بغوفی رحمۃ اللہ علیہ
32 ○ امام شعلبی رحمۃ اللہ علیہ
32 ○ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ
32 ○ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ
32 ○ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ
33 ○ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ
34 ○ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ
34 ○ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ
34 ★ نبی ﷺ پر جادو کے منکرین اور ان کے اعتراضات
34 ○ معتزلہ
34 ○ ابو بکر اصم رحمۃ اللہ علیہ
35 ○ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ
35 ○ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ
35 ○ شیخ محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ
35 ○ محمد امین شیخو
36 ○ ذاکر فمر زمان
36 ★ اعتراضات کے جوابات
36 ① اعتراض (بعد جواب)
38 ② اعتراض (بعد جواب)
39 ③ اعتراض (بعد جواب)
40 ④ اعتراض (بعد جواب)
41 ⑤ اعتراض (بعد جواب)

فہرست

41	★ ⑥ اعتراض (بعد جواب).....
42	★ نبی ﷺ پر جادو کے قصے میں دلائل بہت.....
43	★ خلاصہ کلام.....

جمیع فضل: جادو اور جادوگر کا حکم

43	★ جادو کرنا، کرانا اور سکھنا حرام، کبیرہ گناہ اور کفر یہ کام ہے.....
43	★ ○ آیات.....
44	★ ○ احادیث.....
45	★ ○ اہل علم کے اقوال.....
46	★ جادو دلخواہ سے شرک میں داخل ہے.....
46	★ جادوگر کی سزا.....
47	★ اہل کتاب کے جادوگر کا حکم.....
48	★ جادوگر کی توبہ کا حکم.....

یادیوری فضل: جادوئے کی عین احتیاطی تذکیرہ

49	★ عقیدہ کی درشی (کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جادو نہیں کر سکتا).....
49	★ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا.....
50	★ اللہ تعالیٰ ہی پر کامل توکل و بھروسہ رکنا.....
50	★ جنات و شیاطین سے پناہ مانگتے رہنا.....
50	★ عجہہ بھروسہ کا استعمال.....
51	★ روزمرہ صبح و شام کے اذکار اور دعا کیں.....

جمیع فضل: حب ادعا علاج

53	★ جادو کا علاج کرانا چاہیے.....
55	★ جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرانا جائز نہیں.....
56	★ معانع اہل علم اور بحر بکار لوگوں میں سے ہو.....
56	★ معانع کے لیے ضروری ہدایات.....
58	★ مریض کے لیے ضروری ہدایات.....

8	نواتیہ من المکتبہ
58	★ اگر کوئی ماہرا درمتقی معاون نہ ملے؟
59	★ جادو کی علامات
60	★ جادو کے علاج کے مختلف طریقے
60	① جادو کی سلاش اور اس کا احتلاف
61	② دم درود
61	○ سورۃ الفاتحہ
62	○ سورۃ الفلق، سورۃ الناس
63	○ جبرئیل عليه السلام کا دم
63	○ هر بیماری سے شفاء کا دم
63	○ مزید چند دم
66	○ ایک ضروری وضاحت
68	○ دم سے متعلق بعض اہم امور
68	○ دم کے ساتھ پہونچ مارنا
69	③ دم والے پانی سے مریض کو غسل کرانا
70	④ مریض کے جسم سے جس نکالنا
70	⑤ بعض حی ادویہ کا استعمال
70	○ عجواہ کھجور کا استعمال
71	○ کلونجی کا استعمال
71	○ شسد کا استعمال
72	○ سینگی لگوانا
73	★ جادو سے بچاؤ یا علاج کی غرض سے توبیخ لکانا

بیان 2 جنات و آسیب کی حقیقت اور ان کا علاج


ہلی فصل: جنات کا مختصر تعارف

76	★ لفظِ جن کا مفہوم
76	★ جن اور شیطان میں فرق
77	★ جن کی ایک مخلوق ہے جس کا وجود انسان سے بھی قدمی ہے

* ○ ۶۹	112
* ○ ۷۰	112
* ○ ۷۱	111
* ○ ۷۲	111
* ○ ۷۳	111
* ○ ۷۴	107
* ○ ۷۵	105
* ○ ۷۶	104
* ○ ۷۷	104
* ○ ۷۸	103
* ○ ۷۹	103
* ○ ۸۰	103
* ○ ۸۱	103
* ○ ۸۲	102
* ○ ۸۳	102
* ○ ۸۴	102
* ○ ۸۵	100

خاتمہ: انکو یعنی اپنے عالم کا

* آنے والے کو اپنے عالم کا	100
* اپنے عالم کا	66
* اپنے عالم کا	86
* اپنے عالم کا	86
* اپنے عالم کا	86
* اپنے عالم کا	97
* اپنے عالم کا	97



فہرست

الوقایہ من الجن والسرج

10

- ★ اللہ کے کچھ یہک بندوں سے جنات ڈرتے ہیں 97
- ★ قرآن کریم انسانوں کی طرح جنات کے لیے بھی مجرم ہے 97
- ★ جنات میں انسانوں کی طرح مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی 98
- ★ نیک ہم دوسرے جنوں کو دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں 98
- ★ انسانوں کی طرح جنوں کے پیغمبر بھی محمد ﷺ ہیں 98
- ★ جنات کو بھی موت آتی ہے 99
- ★ مومن جن جنت میں اور کافر جن جہنم میں جائیں گے 100

بیوی فضیل: جنات کی آسیب زدگی اور اس کے امداد

- ★ جنات کا انسانوں کو تکلیف پہنچانا 100
- ★ جنات کے تکلیف پہنچانے کے طریقے 102
- ★ چنے بغیر انسانوں کو بٹک کرنا 102
- ذرا وفاتی خواب دلانا 102
- ★ نومولود کو اذیت دینا 103
- استھاضہ کی بیماری میں مبتلا کر دینا 103
- طاعون میں مبتلا کرنا 103
- مختلف امراض میں مبتلا کرنا 103
- کچھ چراکریے جانا 103
- ★ چست کر انسانوں کو بٹک کرنا 104
- قرآن کریم سے ثبوت 104
- احادیث نبویہ سے ثبوت 105
- اہل علم کے اقوال و مشاهدات سے ثبوت 107
- ★ آسیب زدگی کے چند اسباب 111
- ذاتی گناہوں کی شامت 111
- عشق و حوس 111
- انتقامی جذبہ 111
- بلاوجہ شروات 112
- جادو 112

112 آسیب زدگی کے خاص حالات
113 ایک ضروری وضاحت

بالمعنی فصل: جنات سے بچاؤ کی پیشی احتیاطی تدابیر

113 ہم وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرنا
114 جنات و شیاطین سے پناہ مانگنے رہنا
116 سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا
116 سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھتے رہنا
117 روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا
119 سورۃ الاعلام، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنا
120 گھر میں داخلے کے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا
120 گھر سے نکلتے وقت مسنون دعا پڑھنا
121 بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنا
121 مسجد میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنا
121 ہم بستری کے وقت مسنون دعا پڑھنا
122 دن میں سو مرتبہ کلمہ توحید و تہلیل پڑھنا
122 چند مختلف مسنون وظائف

بالمعنی فصل: جنات اور آسیب زدگی کا علاج

122 جنات اور آسیب زدگی کا علاج کرنا چاہیے
124 معالج کے لیے ضروری ہدایات
125 مریض کے لیے ضروری ہدایات
125 جن زدگی کی تشخیص
125	○ بذریعہ اذان و مسنون وظائف
125	☆ بذریعہ علامات
126	☆ ① حالت بیداری کی علامات
126	☆ ② حالت نیند کی علامات
127	☆ علاج کے مختلف مرحلے اور طریقہ کار
127	○ مختلف مراحل

- ☆ ○ مریض پر دم کی کچھ تفصیل 127
- ☆ ○ جن حاضر ہونے کے بعد کیا کیا جائے? 128
- ☆ ○ جن سے گفتگو اور وعظ و نصیحت 129
- ☆ ○ اگر جن کافر ہو 130
- ☆ ○ ایک ضروری وضاحت 130
- ☆ ○ جن نکلنے کے بعد 131
- ☆ ○ گھریاد فتو وغیرہ سے جن بھگانے کا طریقہ 131
- ☆ ○ جنات سے بچاؤ اور آسیب زدگی کے علاج کے چند غیر شرعی طریقہ 132
- ☆ ○ غیر شرعی طریقے اپنا نے کا نقصان 132

نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج

3

ہدایی فصل: نظر بد کا مفہوم

- ☆ ○ لغوی مفہوم 134
- ☆ ○ اصطلاحی مفہوم 134
- ☆ ○ حد اور نظر بد میں فرق 134

و درمی فصل: نظر بد کا وجود

- ☆ ○ آیات قرآنیہ کی روشنی میں نظر بد کا اثبات 135
- ☆ ○ احادیث بنویہ کی روشنی میں نظر بد کا اثبات 136
- ☆ ○ اہل علم کے اقوال و فتاویٰ کی روشنی میں نظر بد کا اثبات 138
- ☆ ○ کسی بیک اور محبت کرنے والے کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے 139
- ☆ ○ جنات کی نظر بد بھی انسان کو لگ سکتی ہے 140
- ☆ ○ کسی کافر کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے 140
- ☆ ○ کافر کو بھی نظر بد لگ سکتی ہے 140

ندیمی فصل: نظر بد سے بچاؤ کی پیشگوئی احتیاطی تذکیرہ

- ☆ ○ دوسروں کو اپنی نظر بد سے بچانے کی تذکیرہ 140
- ☆ ○ برکت کی دعا دینا 140

فہرست

141	☆ ○ ماشاء اللہ کہنا
142	☆ ○ حسد نہ کرنا
142	☆ خود کو دوسروں کی نظر بد سے بچانے کی تدابیر
142	☆ ○ اللہ سے اپنے لیے برکت کی دعا کرتے رہنا
142	☆ ○ نظر بد لکنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا
143	☆ ○ معوذین سورتین پڑھتے رہنا
143	☆ ○ اپنے اہم امور اور خوبیاں مخفی رکھنا
143	☆ ○ نظر بد لکانے والے سے دور رہنا
144	☆ نظر بد سے بچاؤ یا علاج کے چند غیر شرعی طریقے

بیویو فصل: نکاح بہما علاج

144	☆ پہلا طریقہ (مریض کو عمل کرانا)
145	☆ دوسرا طریقہ (مریض کو دم کرنا)
146	☆ تیسرا طریقہ (مریض کامعوذ تین سورتیں اور پناہ مانگنے کی دعا میں پڑھنا)
149	☆ چوتھا طریقہ (چند مخصوص دم)
149	☆ حاسد کی نظر بد دور کرنے کے چند طریقے

4

جادو، جنات اور نظر بد کے متفرق مسائل

151	☆ کیا کسی اچھے مقصد کے لیے جادو کیا جاسکتا ہے؟
151	☆ جادو اور علمنجومی کی کتب پڑھنا
152	☆ کیا جنات انسان کو اٹھا کر لے جاسکتے ہیں؟
152	☆ جنات کو قابو میں کرنے کی حقیقت
153	☆ کیا علی ہیئت نئے کسی جن سے لڑائی کی تھی؟
153	☆ سوتے میں ذر نے والے کا علاج
154	☆ نظر بد یا جادو کی صرفت کے لیے جنات سے تعاون لینا
155	☆ نظر بد دور کرنے کے لیے بیوی کی طرف سے بکری کی قربانی
156	☆ جادو، جنات اور نظر بد سے متعلقہ چند ضعیف احادیث

کتابِ الواقعۃ من الحنفی والشافعی
جادو، جنات سے بچاؤ

باب حقيقة السحر و علاجه جادو کی حقیقت اور اس کے علاج کا بیان

ہمی فصل: جادو کا مفہوم

ورمی فصل: جادو کا وجود

نمری فصل: کیا نبی ﷺ پر جادو ہوا تھا؟

جونو فصل: جادو اور جادوگر کا حکم

باتھری فصل: جادو سے بچاؤ کی یہی احتیالی شایر

ہمی فصل: جادو کا علاج

باب حقيقة الجن و علاجه جنات دلیل کی حقیقت اور اس کے علاج کا بیان

ہمی فصل: جنات کا مختصر تعارف

ورمی فصل: جنات کا وجود

نمری فصل: جنات کی زیارت چشم آحوال

جونو فصل: جنات کی آسیب زدگی اور اس کے اباب

باتھری فصل: جنات سے بچاؤ کی یہی احتیالی شایر

ہمی فصل: جنات اور آسیب زدگی کا علاج

باب حقيقة العین و علاجه نظر بد کی حقیقت اور اس کے علاج کا بیان

ہمی فصل: نظر بد کا مفہوم

ورمی فصل: نظر بد کا وجود

نمری فصل: نظر بد سے بچاؤ کی یہی احتیالی شایر

جونو فصل: نظر بد کا علاج

باب المسائل المترفة جادو، جنات کے متفرق مسائل کا بیان

باب الاحادیث الضعیفة جادو، جنات سے متعلق ضعیف احادیث کا بیان

جادو کی حقیقت اور اس کے علاج کا بیان

باب حقيقة السحر و علاجه

جادو کا مفہوم

جادو کا الغوی مفہوم

عربی میں جادو کے لیے "سحر" اور انگلش میں میجک (Magic) کا لفظ مستعمل ہے۔ اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ وہ چیز جس کا سبب مخفی ہو، دھوکہ دہی، حق و باطل کا التباس اور ملعن سازی کے ذریعے حیران کن اشیاء پیش کرنا وغیرہ۔

چنانچہ محیطِ محیط میں ہے کہ "جادو" یہ ہے کہ کسی چیز کو اس مقصد سے نہایت خوبصورت بنا کر پیش کرنا کل لوگ اس سے حیران ہو جائیں۔^(۱) المعجم الوسيط میں ہے کہ "جادو وہ ہوتا ہے کہ جس کا سبب انتہائی لطیف (یعنی باریک و مخفی) ہو۔"^(۲) امام ازہری رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ "جادو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیردینے کا نام ہے۔"^(۳) اور لیث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ "جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔"^(۴) ابن فارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "ایک قوم کے مطابق جادو باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنے کا نام ہے۔"^(۵) ابن منظور افریقی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ "جادو" جب باطل کو حق کی صورت میں کرتا ہے اور کسی چیز کو حقیقت کے برعکس سامنے لےتا ہے تو گویا وہ اس کی دینی حقیقت بدلتا ہے۔"^(۶) ابن عاشور رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ "عرب جادو کو جادو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ صحت کو بیماری میں بدل دیتا ہے۔"^(۷) امام ابن اثیر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ "اہل علم کے مطابق جادو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیردینے کا نام ہے۔"^(۸) مشہور انگلش ڈکشنری آکسفورڈ (Oxford) کے مطابق "جادو" یہ ہے کہ ما فوق الفطرت اور پراسرار طاقتون کے ذریعے ظاہری طور پر واقعات پر اثر انداز ہونا۔^(۹) انسائی کلو پپڈیٹ یا انکارنا (Encarta) کے مطابق "جادو اس فن کا نام ہے جس کے ذریعے اشیاء کو قانون فطرت کے خلاف ظاہر کر کے لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے۔"^(۱۰)

(۱) [محیطِ المحیط (ص: ۳۹۹)]

(۲) [المعجم الوسيط (ص: ۴۹۱)]

(۳) [نهذیب اللہ (ص: ۲۹۰)]

(۴) [ایضا]

(۵) [مقابیس اللہ (ص: ۵۰۷)]

(۶) [لسان العرب (ص: ۳۴۸)]

(۷) [ایضا]

(۸) [النهاية في غريب الحديث (مادہ: سحر)]

(۹) [Encarta 2009 (Magic)]

(۱۰) [Oxford Dictionary P:855]

جادو کا اصطلاحی مفہوم

اصطلاحاً اہل علم نے جادو کی مختلف تعریفات ذکر فرمائی ہیں، چند ایک ملاحظہ فرمائیے:

(امام ابن قدامة رضی اللہ عنہ) جادو ایسی گروہ، دم منتر اور کلمات کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جاتا ہے یا جادو گراس کے ذریعے ایسا عمل کرتا ہے جس کے باعث اس شخص کا بدن اور دل متاثر ہوتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور جادو کا واقعی اثر ہوتا ہے لہذا اس کے ذریعے انسان کو قتل کیا جاسکتا ہے، یا بار کیا جاسکتا ہے، یا یوئی سے قربت کے تعلقات میں رکاوٹ ڈالی جاسکتی ہے، میاں یوئی کے درمیان نفرت یا محبت پیدا کی جاسکتی ہے۔^(۱)

(ابن قیم رضی اللہ عنہ) جادو وہ چیز ہے جو خبیث ارواح اور ان کے طبعی قوئی سے مرکب ہوتی ہے (جو انسانی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے)۔^(۲)

(امام رازی رضی اللہ عنہ) جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اصل حقیقت سے ہٹا کر پیش کیا جائے اور اس میں دھوکہ دہی نہیں کیا جائے ہے۔ جب جادو کا لفظ بغیر کسی قید کے مطلق بیان کیا جائے تو اس کے مرتكب کی ندامت کا فائدہ دیتا ہے۔^(۳)

(علام راغب اصفہانی رضی اللہ عنہ) موصوف کے زدیک جادو کے مختلف معانیم ہیں:

① دھوکہ اور ایسے تخیلات جن کی کوئی حقیقت نہیں، جیسا کہ شعبدہ بازوں کا کام ہے کوہ ہاتھ کی صفائی سے حقیقت کو نظر وہیں سے پھیر دیتے ہیں۔ جس کا ذکر قرآن میں اس طرح ہے کہ ﴿سَحْرُهُ وَأَعْيُنُ النَّاسِ وَأَسْتُرُهُبُوهُمْ﴾ [الاعراف: ۱۱۶] ”جادو گروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔“ ایک دوسری آیت میں ہے کہ ﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِ أَنَّهَا أَنْشَغَى﴾ [طہ: ۶۶] ”(مویٰ علیہ السلام) کو ان کے جادو سے یہ خیال لاحق ہوا کہ ان کی لامھیاں اور سیاں (سانپوں کی صورت میں) دوڑ رہی ہیں۔“

② شیطانوں کا تقرب حاصل کر کے ان سے مدد لینا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ﴿هُلْ أُنِيبُكُمْ عَلَى مَنْ تَرَكُلُ الشَّيْطَنَ﴾ [آل عمران: ۲۲۱] ﴿تَرَكُلُ عَلَى كُلِّ أَفَّا إِلَّا إِثِيمٍ﴾ [الشعراء: ۲۲۲] ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ وہ ہر ایک جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں۔“ اور یہ فرمان بھی اسی بارے میں ہے کہ ﴿وَلِكُنَّ الشَّيْطَنُ كُفُرًا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ۱۰۲] ”اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔“

③ لوگوں کے ہاں معروف ایسا علم جس کے ذریعے صورتوں اور طبیعتوں کو تبدیل کیا جاسکتا ہے جیسا کہ

(۱) [المغني لابن قدامة (۲۹۹/۱۲)] (۲) [زاد المعاد لابن القیم (۱۱۵/۴)]

(۳) [تفسیر رازی (۲۴۲/۲)]

بَلْ وَكَلِّ حَقِيقَتٍ ادْرَاسُ الْعَالَمِ ﴿١﴾ (الْأَنْبَيْفُونَ الْجَانِبُ الْأَنْتَرِيُورُ)

انسان کو گدھے میں صورت میں بدل دینا وغیرہ۔ لیکن علم کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

مزید فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جادو کو اچھا بھی تصور کیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ﴿إِنَّ مَنَّ الْبَيَانَ لَيَسْخُرُ أَهْوَاهُهُ﴾ ”بعض اندماز گھنگو جادوی تاثیر رکھتے ہیں۔“^(۱) یعنی ایسا عمدہ کلام جسے سن کر سامنی حیران و ششدھرہ جائیں (اگر مقصد اچھا ہو تو پھر ایسا کلام جائز و مباح ہے البتہ اگر یہی کلام کسی برے مقصد کے لئے ہو تو پھر نہ موم ہے)۔^(۲)

شاہکار انسانیکلوپیڈیا میں مذکور ہے کہ ”جادو کے متعلق یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں دوسرے شخص پر اثر ڈالنے کے لیے شیاطین یا ارواح خیشہ یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے... جادو دراصل ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں، مثلاً خوف ایک نفسیاتی چیز ہے مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رو ٹکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کلپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہیں۔ دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔“^(۳)

جادو کی اقسام

درج بالا تمام تعریفات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں جادو (سحر) کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ صرف جنات کے ذریعے کسی توکلیف پہنچانا ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح سے دوسروں کو دھوکہ دی یا حیران کرنا اس کے مفہوم میں شامل تھا۔ اسی وجہ سے اہل علم نے جادو کی بہت سی اقسام بیان کی ہیں جیسا کہ امام رازی محدث نے آٹھ^(۴) (جبکہ امام راغب اصفہانی محدث نے چار)^(۵) اقسام ذکر کی ہیں۔ امام ابن کثیر بڑا فرماتے ہیں کہ امام رازی نے جادو میں ان بہت ساری قسموں کو اس لیے شامل کر دیا کیونکہ انہیں سمجھنے کے لیے باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے اور لغوی طور پر سحر (جادو) کا لفظ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو نہایت باریک ہو اور اس کا سبب بھی مخفی ہو (حالانکہ عرف میں ہر ایسی چیز کو جادو نہیں کہا جاتا)۔^(۶)

بہر حال اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی بیناوی دوہی تسمیں ہیں:

۱- ایک جادو کی قسم وہ ہے جس میں محض نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے حقیقی طور پر کوئی چیز متاثر نہیں

(۱) [ابخاری (۱۴۶) ترمذی (۲۰۲۸) ابو داود (۵۰۰۷)]

(۲) [امفردات غریب القرآن للاصفہانی (ص: ۲۲۶)]

(۳) [امناء کار اسلامی انسائیکلوپیڈیا، مرتب: سید قاسم محمود (ص: ۵۸۸)]

(۴) [تفسیر رازی (۲۴۳/۲) مفردات غریب القرآن للاصفہانی (ص: ۲۲۶-۲۲۷)]

(۵) [تفسیر ابن کثیر (۱۴۷: ۱)]

ہوتی۔ جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی نظر میں پر ایسا جادو کیا کہ انہیں رسایں سانپ دکھائی دینے لگیں۔ شعبدہ بازی اور ہاتھ کی صفائی بھی اسی قبیل سے ہے۔ لوگوں کو ظاہر دھوکہ دہی کے اس طرح کے کرتے اور کرشمے کوئی شخص بھی سیکھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اب تو مختلف قسم کے کرتے اور شعبدے سیکھنے کی بہت سی کتابیں بھی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ جادو کی اس قسم کو ”مجازی“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے جادو کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اسے کسی اچھے مقصد کے لیے کیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں اور اگر مقصد بر اہو گا تو پھر یہ قابلِ مذمت ہے۔

2۔ دوسرا جادو کی قسم وہ ہے جس کے ذریعے حقیقتاً کسی انسان کو متاثر کیا جاسکتا ہے، اسے تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے، خوفزدہ کیا جاسکتا ہے، بیمار بنا لیا جاسکتا ہے حتیٰ کہ اسے مارا بھی جاسکتا ہے۔ عمل جنات و شیاطین اور ارواح خیشہ کے تعاون سے کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت میں حرام ہے اور سورہ بقرہ کی آیت ﴿وَلَكُنَ الشَّيْطَنَ كَفُرًا﴾ میں اسی کو کفر کہا گیا ہے۔

جادو کرنے کا طریقہ

جادو کی درج بالا تفہیم سے معلوم ہوا کہ حقیقی جادو وہ ہے جس میں جادوگر جنات و شیاطین کی مدد سے لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ بہاں یہ یاد رہے کہ جن اور شیطان جادوگر کی مدد بلا وجہ نہیں کرتے بلکہ اسے جنات کو راضی کرنے کے لیے انہیں خوش کرنا پڑتا ہے اور یقیناً وہ انسان سے تب ہی خوش ہوتے ہیں جب وہ کوئی بڑا گناہ کرے اور یقیناً سب سے بڑا گناہ شرک ہے، الہذا وہ اس سے شرک اور کفریہ کام اور بڑے سے بڑا گناہ کرواتے ہیں۔ پھر جو جادوگر جتنا بڑا گناہ کرتا ہے جنات بھی اس کا اسی قدر تعادن کرتے ہیں۔

جنات و شیاطین کو راضی کرنے کے لیے جادوگر جو گناہ کرتے ہیں اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ بعض جادوگر قرآن مجید کو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بعض قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، بعض انہیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں، بعض قرآنی آیات کو اپنے پاؤں کے نعلے حصوں پر لکھتے ہیں، کچھ جادوگر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، کچھ بغیر وضو نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہمیشہ حالت جنات میں رہتے ہیں، کچھ شیطان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں وہ بھی اسم اللہ پڑھے بغیر اور ذبح شدہ جانوروں ہیں چینکتے ہیں جہاں شیطان خود انہیں کہتا ہے، کچھ ستاروں کو بجھہ کرتے ہیں، کچھ اپنی ماں یا بیٹی (یعنی حرام رشتہ دار عورتوں) سے زنا کرتے ہیں اور کچھ عربی کے علاوہ کسی دوسرا کسی زبان میں ایسے الفاظ لکھتے ہیں جن میں کفریہ معانی پائے جاتے ہیں۔^(۱)

یوں جب جادوگر جنات کو خوش کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھی جادوگر کی مدد کرتے ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، بعض اوقات کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اور بعض اوقات اس کے گھر، دفتر وغیرہ میں

(۱) [ملحق از، جادو کا علاج از و حید بن عبد السلام بالی (ص: ۲۶)]

مختلف اشیاء توڑ کر سے خوفزدہ کرتے ہیں۔ وہ جادوگر کا تعاون اس طرح بھی کرتے ہیں کہ آسمان سے چ رائی ہوئی باقیں لا کر اسے بتلاتے ہیں (جیسا کہ ایک حدیث میں مذکور ہے^(۱)) جس کی بدولت جادوگر اپنے گاہوں کو مستقبل کی صحیح خبریں بتانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور لوگ اسے سچا تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر اس کی جھوٹی باتیں بھی سچ کبھی کر مان لیتے ہیں۔

جادو کی چند دیگر اقسام

ذیل میں جادو کی چند ایسی اقسام بیان کی جا رہی ہیں جن پر یا تو جادو کا لفظ بولا گیا ہے یا پھر ان کا کسی نہ کسی طرح جادو کے ساتھ تعلق ضرور ہے۔

علم نجوم: علم نجوم وہ علم ہے جس میں فلکی احوال (ستاروں کی گردش وغیرہ) کے ذریعے زمینی حالات (جو رونما ہو چکے ہوں یا ہونے والے ہوں) کی خبر دی جاتی ہے۔^(۲) کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ جس علم نجوم کی ممانعت ہے وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے نجومی مستقبل میں ہونے والے واقعات کے علم کا دعویٰ کرتا ہے مثلاً ہوا کا چنان، بارش کا آنایانہ آنا وغیرہ۔^(۳)

حدیث شریف میں اسے جادو کی ایک قسم کہا گیا ہے چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ ﴿مَنْ افْتَبَسَ عِلْمًا مِّنَ النُّجُومِ فَقَدِ افْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السُّخْرِ، زَادَ مَا زَادَ﴾ ”جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر جتنا زیادہ علم نجوم سیکھتا جائے گا اسی قدر جادو میں اضافہ ہوتا جائے گا۔“^(۴) شیخ ابن شہمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک فتویٰ میں فرمایا ہے کہ علم نجوم جادو کی ہی ایک قسم ہے اور حرام ہے کیونکہ یہ توهات پر منی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں... (اور جیسے جادوگروں کو متاثر کرتا ہے) اسی طرح نجومی بھی نفسیاتی طور پر لوگوں کو متاثر کرتا ہے (لہذا اس معنی میں یہ جادو ہی کی ایک قسم ہے)۔^(۵)

اس لیے جیسے علم نجوم کو سیکھنا اور سکھانا ناجائز ہے اسی طرح کسی نجومی کے پاس مستقبل کے حالات دریافت کرنے کے لیے آنایا سے ہاتھ دکھانا یا قال نکالنا وغیرہ بھی ناجائز ہے کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب ہے ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا اور یہ حرام و باطل ہے۔ جیسا کہ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے حرام و باطل ہی کہا ہے۔^(۶) ↪ تاہم یہ یاد رہے کہ کسی مصلحت کے پیش نظر ستاروں کا علم حاصل کرنا جیسا کہ قبلہ کی سمت اور نمازوں کے

(۱) [بخاری (۴۸۰) کتاب الفسیر: باب حتی اذا فرعت عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم]

(۲) [مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ (۱۹۲/۳۵)] (۳) [معالم السنن للخطابی (۲۲۰/۱۴)]

(۴) [صحیح : الصحیحة (۷۹۳) صحیح الترغیب (۳۰۵) ابو فاود (۳۹۰۵) ابن ماجہ (۳۷۲۶)]

(۵) [افقه العبادات (ص: ۵۵)] (۶) [بیان فضل علم السلف (ص: ۳۷)]

اوقدات کی معرفت، سال و ماہ کے تعین، سورج و چاندگرہن کی معرفت اور تاریخوں وغیرہ کے علم کے علم کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس معنی میں یہ ایسا علم فلکیات ہو گا جس میں دینی یاد نیوی مصلحت مضر ہے لہذا یہ مباح ہے۔

کافت و قیافہ شناسی : کافن وہ ہوتا ہے جو مستقبل میں ہونے والے کاموں، مخفی راز اور علم غیب کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی اکثر باتیں جھوٹی جبکہ کچھ بھی ہوتی ہیں۔ علم اسے جنات وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور عراؤف (قیافہ شناس) وہ بات ہے جو اگر کوئی مفت کا دعویٰ کرتا ہے جسے چور کون ہے؟ چور کی کہاں ہوئی؟ پرچم کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے دعووں کے پیچھے بھی جنات کا ہی خل ہوتا۔

شیخ ابن جریئر رضا (چوری شدہ چیز کا پتہ دینے والے کے متعلق) فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آدمی بھی جادوگروں میں سے ہے اور یہ ایک شیطانی عمل ہے جس پر کوئی بھی انسان قدرت نہیں پائے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا اور وحی پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے۔ اب چونکہ نبی ﷺ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آئے والا نہیں (اس لیے اب اگر کوئی غیبی امور کے دعوے کرتا ہے تو محض جناتی تعاون سے ہی ایسا کرتا ہے) شیطان ہی اسے چور کی شکل، اوصاف اور چوری شدہ چیز کی بگد کے متعلق بتاتا ہے۔^(۱)

کہانت اور قیافہ شناسی کو جادو میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کیونکہ یہ غیب کی خبریں بتا کر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں لیعنہ جیسے جادوگروں کو متاثر کرتا ہے۔^(۲) نیزاں لیے بھی کہا ہیں ویا فی شناس کو بھی جادوگر کی طرح جنات کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جنات کی آسمان سے چراکی ہوئی خبریں ہی یہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں آنکھہ ہونے والے حالات کا علم ہے۔

○ جنات آسمان سے کیسے خبریں چراتے ہیں؟ اس کے متعلق ایک فصیلی روایت میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: إِذَا فَضَّى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ... "جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتہ اللہ کے فیصلے کوں کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھر پھڑاتے ہیں، اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہست دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بہت اونچا، سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں، شیطان آسمان کے نیچے یوں اوپر نیچے ہوتے ہیں (سفیان راوی حدیث نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ

(۱) امزید دیکھئے: فتح الباری (۲۱۶-۲۱۷) (۲) التلوو السکین من فتاوی این جھوین (ص: ۱۹)

(۳) افقيه العبادات للعثيمين (ص: ۶۹)

الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں) پھر وہ شیاطین کوئی ایک گلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ گلمہ جادوگریا کا ہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ گلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتا میں آگ کا گولا انہیں آدبو چتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں جب آگ کا انگارا ان پر پڑتا ہے، اس کے بعد کا ہن اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے (جب کامن کی طرف سے ایک بات صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کی طرف سے) کہا جاتا ہے کہ کیا اسی طرح ہم سے فلاں دن کا ہن نے نہیں کہا تھا۔ اسی ایک گلمہ کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا کا ہنوں اور جادوگروں کی بات کو لوگ سچا جانے لگتے ہیں۔^(۱)

○ کامن و قیافہ شناس کے پاس آنے کا حکم: فرمان نبوی ہے کہ ﴿مَنْ أَتَى عَرَافَاً أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّهُ إِيمَانِيْقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ "جو شخص کسی عراف (قیافہ شناس) یا کامن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے محمد ﷺ پر نازل کردہ (تمام) تعلیمات کے ساتھ کفر کر دیا۔"^(۲) ایک دوسرا فرمان یوں ہے کہ ﴿مَنْ أَتَى عَرَافَاً فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَادَةُ أَرْبَعِينَ لِيَلَّةً﴾ "جو کسی عراف (قیافہ شناس) کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو چالیس روز اس کی کوئی نمازوں کی نہیں ہوگی۔"^(۳)

○ کامن کی کمائی کا حکم: کامن کی کمائی حرام ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علمی میں کہانت کے ذریعے حاصل ہونے والی کوئی چیز کھالی لیکن جب علم ہوا تو گلے میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔^(۴)
گرہوں میں پھونکنا: جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق : ۴] یعنی گرہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں۔ یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔^(۵) یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک جس جادوئی عمل کا ارادہ ہوتا ہے وہ منعقد نہ ہو جائے۔^(۶)

سحر بیانی: ایک حدیث میں ہے کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، ان کے بیان سے لوگوں کو بہت

(۱) ابخاری (۴۸۰۰) کتاب التفسیر: باب قوله تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم ...]

(۲) صحيح: صحيح الجامع الصغير (۵۹۳۹) ابوداؤد (۳۹۰۴) ابن ماجہ (۶۲۹) ترمذی (۱۳۵)

(۳) مسلم: کتاب السلام، صحيح الترغیب (۳۰۴۶) صحيح الجامع الصغير (۵۹۴)

(۴) ابخاری (۳۸۴۲) کتاب مناقب الانصار: باب ایام الحاہلیۃ

(۵) تفسیر احسن البیان (ص: ۱۷۵۵)

(۶) افتح المحمد شرح کتاب التوحید (ص: ۲۴۸)

حیرت ہوئی تو نبی ﷺ نے فرمایا ﴿إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا﴾ ”بعض بیان جادوی تاثیر رکھتے ہیں۔“^(۱) شیخ ابن شیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بیان سے مراد فصاحت و بلاغت ہے یعنی ایسا اندماز لفگلو جس میں کامل طور پر فصاحت موجود ہو۔^(۲) اور اسے جادو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے متکلم سامعین کی عقول کو قابو میں کر لیتا ہے اور اپنی قوت بیانی کی طاقت سے ان پر ایسا جادوی اثر چھوڑتا ہے کہ اگر وہ حق کو باطل اور باطل کو حق بھی بنا کر پیش کرے تو لوگ اس کی بات مانے پر تiar ہو جاتے ہیں۔^(۳) لہذا اس کا حکم اس کے استعمال پر ہی یعنی اگر وہ اس قوت بیانی کا استعمال امور خیر یعنی حق کے دفاع اور باطل کی تردید میں کرے گا تو جو کا مستحق ہبھرے گا اور اگر اس کے بر عکس وہ اس قوت کا استعمال حق کو مٹانے یا باطل کی تائید میں کرے گا تو گناہ گار ہو گا۔^(۴)

چغل خوری: نبی ﷺ نے فرمایا ﴿أَلَا أُنْبَئُكُمْ مَا الْعَصْمَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ : الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ﴾ ”کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ العصمه (جادو) کیا ہے؟ یہ چغل خوری ہے یعنی لوگوں کے درمیان (ایک دوسرے کی) باتوں کو پھیلانا۔“^(۵) قاموس المحيط میں عصمه کا معنی جادو اور جھوٹ ذکر ہوا ہے۔^(۶) شیخ صالح الغوزان فرماتے ہیں کہ یہاں عصمه سے مراد جادو ہے۔^(۷) یعنی نبی ﷺ کا سوال یہ تھا کہ کیا میں تمہیں عصمه یعنی جادو کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟^(۸) چغل خوری کو نبی ﷺ نے جادو اس لیے قرار دیا کیونکہ یہ بھی جادوی اثر رکھتی ہے جیسے جادو سے لوگوں میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی تفرقہ ڈال دیتی ہے بلکہ یہ تاثیر میں جادو سے بھی سخت ہے جیسا کہ یہ مقولہ بھی ہے کہ ”چغل خوار ایک گھنٹے میں اتنا فساد برپا کر دیتا ہے جتنا جادو گرا ایک سال میں نہیں کر سکتا۔“^(۹)

جادو، کرامت اور محجزہ میں فرق

جادو فاسق و فاجر شخص کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے جبکہ کرامت کسی نیک اور متقیٰ شخص سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ جادو میں جادو گر کو مختلف قسم کے اقوال و افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں جبکہ کرامت میں صاحب کرامت کو کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ کرامت اس کے ہاتھ پر شخص اتفاقاً ظاہر ہو جاتی ہے۔ دراصل کسی بھی خلاف عادت امر کا واقع ہو جانا

(۱) [بخاری (۵۱۴۶) ترمذی (۲۰۲۸) ابو داود (۵۰۰۷)]

(۲) [القول المفيد شرح کتاب التوحید للشیعین (۵۲۷/۱)]

(۳) [ایضا]

(۴) [اعانة المستفید شرح کتاب التوحید للفوزان (۳۶۴/۱)]

(۵) [مسلم (۲۶۰۶) کتاب البر والصلة والآداب ، مسند احمد (۴۳۷/۱)]

(۶) [القاموس المحيط (مادہ: عصمه)]

(۷) [المخلص فی شرح کتاب التوحید للفوزان (ص: ۲۱۰)]

(۸) [اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید للفوزان (۳۶۲/۱)]

(۹) [ایضا]

ہی جادو، کرامت اور مججزہ ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ خلاف عادت کام اگر کسی فاسق و گناہگار شخص کے ہاتھوں ظاہر ہوتا یہ جادو ہے کیونکہ یقیناً یہ کام شیاطین کی مدد سے ہی ظاہر ہوا ہے اور اگر کسی تینک شخص کے ہاتھوں ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے اور اگر کسی نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا تو وہ مججزہ ہے اور یاد رہے کہ مججزہ میں باقاعدہ چیلنج کیا جاتا ہے جو کرامت میں نہیں ہوتا، اسی طرح مججزہ انبیاء کی نبوت کے اثبات کے لیے بطور دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو عطا ہوتا ہے جبکہ کرامت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور جادو اور مججزہ میں یہ فرق ہے کہ جادو جادو گر کے علاوہ کوئی دوسرا بھی سیکھ سکتا ہے اور جادو گر کی طرح ہی جادو کر سکتا ہے جبکہ مججزہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ظاہر ہوتا ہے، دوسرا کوئی بھی اسے ظاہر نہیں کر سکتا۔

جادو کا وجود

آیات قرآنیہ کی روشنی میں جادو کا اثبات

❶ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے یہ مشہور کردیا کہ آپ علیہ السلام جادو گرتے تھے اسی لیے تمام جن و انس اور چند پر حکومت کرتے تھے۔ عہد نبوی میں بھی یہودی یہی سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں آیات نازل فرمادیں اور یہ اعلان کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادو گرنیں تھے کیونکہ جادو کا عمل تو کفر ہے اور ایک پیغمبر اس کفر کا ارتکاب کیونکر کر سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاتَّبِعُوا مَا أَنْتُلُو الْشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ ... كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ۱۰۲] -

❷ ”اور وہ اس چیز کے پیچے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بالل میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوندو بیوی میں جدائی ڈال دیں اور درآصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، اور وہ یقیناً یہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بد لے والے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اور اگر یہ لوگ صاحب ایمان مقی بن جاتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔“

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں سلیمان علیہ السلام سے جادو کی نفی کی وہاں جادو کرنے والوں کو شیاطین قرار دیا۔ اگر جادو کا وجود ہی نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جادو کی ہر ایک سے نشی فرمادیتے۔

الْوَقِيْعَةُ الْمُتَّسِعُ الْمُكَبِّلُ حَبَادُوكِيْ حَقِيقَتُ اُرَاسُ الْمَاعِلَانِ

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا، کرنا شیطانی کام اور اسے سیکھنا، سکھانا کفر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کی تاثیر ہے اور اس کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے لیکن جادو کا نقصان بھی اللہ کے حکم پر ہی موقف ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو جادو اثر کرتا ہے ورنہ نہیں۔

② دوسرے قرآن کریم میں موسیٰ ﷺ کے حوالے سے جادو کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں جادو زور پر تھا۔ جب موسیٰ ﷺ فرعون کے پاس مجزات لے کر گئے تو فرعون نے اسے جادو سمجھ کر بڑے بڑے جادو گروں کو ان کے مقابلے کی دعوت دے دی۔ ان جادو گروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو جادو کی وجہ سے لوگوں کو سانپ دکھانی دیئے گئیں حتیٰ کہ اس جادو کا اثر موسیٰ ﷺ پر بھی ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے جو مسیح وہ دور میں نہیں بلکہ پرانے زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ ﷺ کے حوالے سے چند آیات حسب ذیل ہیں:

1- ﴿قَالُوا إِيمُوسَى إِنَّمَا أَنْتُ لُقُومٌ وَإِنَّمَا أَنْتُ لُقُومٌ لَا تَحْنُنُ الْمُلْقُومِينَ... رَبُّ مُؤْسَى وَهُوَ فِي الْأَعْرَافِ﴾ [الاعراف: ۱۱۵-۱۲۲] ”ان جادو گروں نے کہا ہے موسیٰ! خواہ آپ پیش کریں یا ہم ہی پیش کریں؟ (موسیٰ ﷺ نے فرمایا) تم ہی پیش کرو، پس جب انہوں نے (اپنا جادو) پیش کیا تو لوگوں کی نظر بند کر دی اور ان پر بیت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ اور ہم نے موسیٰ ﷺ کو علم دیا کہ اپنا عصا ذال دینجے! سو عصا کا ذال اتنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے تکھیل کو زگنا شروع کر دیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذیل ہو کر پھرے۔ اور وہ جو جادو گر تھے مجده میں گر گئے۔ کہنے لگ کر ہم ایمان لائے رب العالمین پر۔ جو موسیٰ اور ہارون (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بھی رب ہے۔“

2- ﴿فَلَمَّا أَلْقَوُا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّعْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِلُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [یونس: ۸۱] ”جب ان (جادو گروں) نے (اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر) ڈالا تو موسیٰ ﷺ نے فرمایا، یہ جو کچھ تم لائے ہو، جادو ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ابھی بے اثر کر دے گا، اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے عکس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔“

3- ﴿قَالَ تَلَ الْقُوَّا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخْيِلُ إِلَيْهِ مِنْ سُخْرِهِمْ أَتَهَا تَشْغِي... حَيْثُ أَتَيْ﴾ [طہ: ۶۹-۷۰] ”(موسیٰ ﷺ نے) فرمایا نہیں تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ ﷺ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ پس موسیٰ ﷺ نے اپنے دل ہی دل میں ذر محسوں کیا۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔ اور تیرے والیں ہاتھ میں جو ہے اسے ذال دے کے ان کی تمام کارگیری کو وہ نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادو گروں کے کرتب ہیں اور جادو گر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حِدَادِيْ حِقْيَقَتِ اُوْرَاسِ کَالْعَلَاجِ

③ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ نے گروہوں میں پھونکیں مار کر جادو کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً اس قسم کے جادو سے پناہ مانگنے کا ذکر اسی لیے ہے کیونکہ ایسے جادو کی حقیقت اور وجود ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۱﴾ وَمِنْ شَرِّ
النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿۳﴾ [الفلق : ۱ - ۵] ”آپ کہہ دیجئے کہ میں صحیح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اور انہی ہر رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا انہی ہر اپھیل جائے۔ اور گرہ (لگا کر ان) میں پھونکنے والیوں کے شر سے (بھی)۔ اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔“

امام بخاری^(۱)، حافظ ابن حجر^(۲)، امام بغوی^(۳)، امام قرطبی^(۴)، امام ابن کثیر^(۵)، علام قاسمی^(۶)، شیخ عبد الرحمن بن حسن آل شیخ^(۷) اور شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی^(۸) نبی ﷺ کے مطابق ”النَّفَّاثَاتِ“ یعنی پھونکنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی عورتیں ہیں۔

④ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِنَّةِ وَالظَّاغُوتِ﴾ [النساء : ۵۱] ”وہ لوگ (یعنی اہل کتاب) جبتو اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔“

حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ جبتو سے مراد جادو ہے۔^(۹) حضرت ابن عباس رض، ابن جبیر اور ابوالعلاء رض بھی اسی کے قائل ہیں۔^(۱۰) شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی^(۱۱) اور شیخ ابن باز^(۱۲) نبی ﷺ نے بھی جبتو سے جادو ہی مراد لیا ہے۔

احادیث نبویہ کی روشنی میں جادو کا اثبات

(۱) حضرت عائشہ رض کے بیان کے مطابق لبید بن عاصم یہودی نے نبی ﷺ پر جادو کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس جادو اور اس کے علاج کی خبر دے دی (یہ حدیث بالتفصیل آنکہ عنوان ”کیا نبی ﷺ پر جادو

- (۱) [بخاری: کتاب الطہ: باب السحر] (۲) [فتح الباری (۲۲۵/۱۰)]
- (۳) [شرح السنۃ (۱۸۵/۱۲)] (۴) [تفسیر قرطبی (۲۵۷/۲۰)]
- (۵) [تفسیر ابن کثیر (۵۷۳/۴)] (۶) [تفسیر القاسی (۳۰۲/۱۰)]
- (۷) [فتح المحمد (ص: ۲۳۸)] (۸) [تيسیر الكریم الرحمن (ص: ۸۶۷)]
- (۹) [تفسیر فتح القدير (۱۶۰/۲)] (۱۰) [تفسیر البغوي (۲۳۴/۲)]
- (۱۱) [تيسیر الكریم الرحمن (ص: ۱۴۷)] (۱۲) [التعنیق المفید (ص: ۱۳۹)]

ہوا تھا؟“ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔^(۱)

معلوم ہوا کہ جادو ایک حقیقت ہے اسی لیے تو نبی ﷺ اس میں بہتلا ہوئے۔

(۲) فرمان نبوی ہے کہ ﴿اجْتَنِبُوا السَّبَعَ الْمُوبِقَاتِ ... وَالسَّحْرُ ...﴾ ”سات ہلاک کرنے والی اشیاء سے بچو (ان میں سے ایک یہ ہے) جادو۔“^(۲)

اس حدیث سے بھی جادو کا وجود ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں جادو سے روکا گیا ہے اور بلاشبہ نبی ﷺ کی بھی ایسے کام سے نہیں روک سکتے جس کا وجود ہی نہ ہو۔

(۳) حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مردی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿لَيْسَ مِنَ الْمُتَطَهِّرِ أَوْ تُطَهِّرُ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكَهَّنَ لَهُ أَوْ سَحَرُ أَوْ سُجْرَ لَهُ﴾ ”وَخَفْضَ هُمْ میں سے نہیں جس نے قال کالی یا جس کے لیے قال نکالی گئی، یا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا۔“^(۳)

اس حدیث میں بھی نبی ﷺ کا جادو سے منع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جادو کا وجود ہے۔

(۴) فرمان نبوی ہے کہ ﴿مَنْ افْتَسَسَ عِلْمًا مِّنَ النُّجُومِ فَقَدِ افْتَسَسَ شُعْبَةً مِّنَ السَّحْرِ ، زَادَ مَا زَادَ﴾ ”جس نے علم نجوم سے کھدا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر بتنا زیادہ علم نجوم سیکھتا جائے گا اسی تدریجادو میں اضافہ ہوتا جائے گا۔“^(۴)

کے اس حوالے سے مزید چند احادیث آئندہ عنوان ”جادو اور جادوگر کا حکم“ کے تحت ملاحظہ کی جائیں ہیں۔

اہل علم کے اقوال و فتاویٰ کی روشنی میں جادو کا اثبات

(ابن قدامة رضی اللہ عنہ) جادو ایک حقیقت ہے۔^(۵)

(ابن قیم رضی اللہ عنہ) اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ﴿وَمَنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جادو کی تاثیر ہے اور فی الواقع جادو موجود ہے۔^(۶)

(نووی رضی اللہ عنہ) صحیح بات یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ جہو رامہ و علما اسی کے قائل ہیں اور کتاب و سنت کی

(۱) [بخاری ۵۷۶۲] کتاب الحدود: باب الطبع: باب السحر]

(۲) [بخاری ۶۸۵۷] کتاب الحدود: باب رمي المحسنات، مسلم (۲۵۸) ابو داود (۲۸۷۴)]

(۳) [صحیح: السلسلة الصحيحة (۲۱۹۵) صحيح الترغیب (۳۰۴۱) غایۃ العرام (۲۸۹) رواہ البزار والطبرانی]

(۴) [صحیح: الصحيح (۷۹۳) صحيح الترغیب (۳۰۵۱) ابو داود (۳۹۰۵) ابن ماجہ (۳۷۲۶)]

(۵) [المغنى لابن قدامة (۲۹۹/۱۲) [۶] [بدائع الفوائد (۴۵۲/۲)]

نصوص بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں۔^(۱)

(قطبی رحمۃ اللہ علیہ) اہل الشکار نہ بہبی ہے کہ جادو و اقتنا موجود اور ثابت ہے۔^(۲)

(مازی رحمۃ اللہ علیہ) جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جادو و ثابت ہے اور فی الواقع اس کا اثر ہوتا ہے اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جادو و حقیقت میں نہیں ہوتا بلکہ محض وہم و مگان کا ہی نام ہے، ان کا دعویٰ غلط ہے۔^(۳)

(خطابی رحمۃ اللہ علیہ) جادو و ثابت ہے اور اس کی حقیقت موجود ہے۔ اس پر عرب، فارس، ہند اور روم کی کچھ قوموں کا اتفاق ہے اور یہی تو میں زمین پر بنے والوں میں افضل اور علم و حکمت کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمان ہے ﴿يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ۱۰۲] ”وَهُوَ الَّذِي كُوَجَادَ وَسَكَحَتْتَهُ تَحْتَهُ“، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ ما لگنے کا حکم دیا ہے ﴿وَمَنْ شَرَرَ النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ...﴾ [الفلق: ۴] اور جادو کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی احادیث بھی ثابت ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا... لہذا جادو کا انکار کرنے سر اسر جہالت ہے۔^(۴)

(شیخ بن شیعین رحمۃ اللہ علیہ) جادو ایک حقیقت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور یہ واقعی اثر انداز ہوتا ہے۔^(۵)

(شیخ صالح الغوزان) جادو فی الواقع موجود ہے اور بعض جادو تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل اور جسم پر اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کو بیمار بنا دیتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے ہیں لیکن (یہ یاد رہے کہ) جادو کا یہ اثر اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔^(۶)

جادو کے منکروں کی تردید

درج بالاسطور میں مفصل دلائل ذکر کیے جا چکے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن پھر بھی کچھ حضرات نے اس کا انکار کیا ہے۔ جادو کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ جادو کا وجود عقل کے خلاف ہے یعنی عقل یہ بات نہیں مانتی کہ ایک آدمی جادو کے ذریعے کسی کو مریض بنا سکتا ہے، ہم بستری میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، کاروبار تباہ کر سکتا ہے حتیٰ کہ کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جادو کے وجود کو اس لینے نہیں مانتے کیونکہ وہ ایسا تسلیم کرنے کو ہی شرک تصور کرتے ہیں یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر نفع نقصان کا مالک کسی انسان (جادو گروغیرہ) کو تصور کر لیا جائے تو یہ شرک ہے کیونکہ اس میں اللہ کے علاوہ دوسروں سے نفع نقصان کا عقیدہ رکھا گیا ہے حالانکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اولاً یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر جادو کا انکار محض اس لیے کیا جائے کہ اسے عقل نہیں مانتی تو عقل تو یہ بھی

(۱) [تفسیر قرطبی (۴۶۱۰)]

(۲) [کmafی فتح الباری (۲۲۲/۱۰)]

(۳) [کmafی شرح السنۃ (۱۸۷/۱۲)]

(۴) [کmafی فتح الباری (۲۲۲/۱۰)]

(۵) [كتاب التوحيد للفوزان (ص: ۳۹)]

(۶) [فقہ العبادات (ص: ۵۸)]

تلیم نہیں کرتی کہ میزان میں اعمال کا وزن کیا جاسکتا ہے، اسی طرح عقل یہ بھی نہیں مانتی کہ بال سے زیادہ باریک اور تواریک دھار سے زیادہ تیز پل صراط پر سے لوگ گزر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ باقی احوالی قیامت کے حوالے سے صحیح دلائل سے ثابت ہیں اور سب ان کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے امور غیریہ ہیں جن پر تمام مسلمان ایمان رکھتے ہیں حالانکہ عقل انہیں تلیم نہیں کرتی حتیٰ کہ دین کی بنیاد ہی امور غیریہ پر ہے جیسے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام الہامی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان وغیرہ۔ نیز قرآن کریم کی ابتداء میں جن مقنی و پرہیز گار لوگوں کے لیے قرآن کو ہدایت قرار دیا گیا ہے ان کی پہلی صفت ہی یہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ۳] ”وَغَيْبٌ پَرِ ايمان رکھتے ہیں۔“

اور اگر بالفرض دین و شریعت کو عقل کی کسوٹی پر پکھنا شروع کر دیا جائے تو یاد رہے کہ عقول تو مختلف ہیں۔ یعنی ایک کی عقل کے مطابق کوئی بات معقول ہے جبکہ دوسرے کی عقل کے مطابق وہی بات نامعقول ہے۔ ایک آدمی کی عقل کی بات کو تسلیم کرتی ہے جبکہ دوسرے کی عقل اس کا انکار کرتی ہے۔ اس طرح نتیجہ یہ لکھے گا کہ دین بازیچہ اطفال اور جاہلوں کے لیے تختہ مشق بن کر رہ جائے گا۔ ایک جادو کا انکار کرے گا، دوسرا میزان کا انکار کرے گا اور تیسرا پل صراط کا انکار کر دے گا۔ اس طرح جس کی عقل میں دین کی جوبات آئے گی وہ اسے مان لے گا اور جو عقل میں نہیں آئے گی اس کا انکار کر دے گا تو پھر دین کا باقی کیا پچھے گا؟۔

کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کی یہی حالت ہوئی چاہیے؟ یقیناً نہیں بلکہ اہل ایمان کا یہ شیوه ہونا چاہیے کہ جب کوئی بات کتاب و سنت سے ثابت ہو جائے تو اسے فوراً تسلیم کر لیں خواہ عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے جیسا کہ معراج کے واقعہ کو عقل تسلیم نہیں کرتی تھی لیکن جب حضرت ابو بکر شافعیؓ کو یہ کہا گیا کہ ایسا محمد ﷺ نے کہا ہے تو انہوں نے فوراً تسلیم کر لیا اور ”صدیق“، کارتہب پایا۔ قرآن کریم میں تو نبی ﷺ کا فصلہ تسلیم نہ کرنے والوں سے ایمان کی لنفی کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا إِنَّمَا
قَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا اتَّسْلِيمًا﴾ [النساء: ۶۵] ”قسم تیرے پروردگار کی ایہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام آپس کے اختلاف میں آپ ﷺ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تھنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔“

لہذا ایک مسلمان کو جاہیے کہ جب بھی اسے اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کا علم ہو تو فوراً اسے من و عن تسلیم کر لے خواہ عقل اسے تسلیم کرے یا نہ۔ بصورت دیگر ایمان نہ ہونے کے مترادف ہے۔

علاوہ ازیں مفترضین کی یہ بات کہ جادوگر کسی کو کیسے بیمار کر سکتا ہے؟ یا مار سکتا ہے؟ تو یاد رہے کہ سابقہ اور اق

جہاد کی حقیقت اور اس کا علاج ﴿الْجَنَاحُ مِنْ جَنَاحِ الْمُنْظَرِ﴾

میں یہ وضاحت کردی گئی ہے کہ جادوگر بذاتِ خود ایسا کچھ نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتا ہے بلکہ یہ تمام کام تو جنات کرتے ہیں۔ جب وہ بعض شرکیہ اور کفریہ کام کر کے جنات کا تعاون حاصل کر لیتا ہے تو پھر جسے وہ بیمار کرنے کو کہتا ہے جنات اسے تکلیف پہنچا کر بیمار کر دیتے ہیں، وہ حصے مارنے کو کہتا ہے جنات اسے موت کی حالت تک پہنچا دیتے ہیں۔ جادوگر تو ایک انسان ہی ہے جسے خود ایسے امور انعام دینے کی قطعاً کوئی طاقت نہیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ یہ تمام امور اصلًا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انعام پاتے ہیں کیونکہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی بھی کسی کا نقصان یا فائدہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جادو کے حوالے سے قرآن کریم میں ہے کہ

﴿وَمَا هُمْ بِضَارٍ بِّنِيهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ۲۰۲] اور رحقیقت وہ (جادو کرنے والے) بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

اگر اس اعتقاد کے ساتھ جادو کو تسلیم کیا جائے کہ جادو بذاتِ خود موثر نہیں بلکہ اس کی تاثیر بہت ہی ہوتی ہے جب اللہ کی مرضی ہو تو پھر یہ شرک نہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ جادو بذاتِ خود موثر ہے اور اس میں اللہ کی مشیت کو کوئی دشی ہی نہیں تو پھر یہ شرک ہے خواہ یہ عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم۔

☞ کچھ لوگ جادو کا انکار کرنے کے لیے یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر جادو قدر یہ میں زمانوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کی واقعی ابتداء سے ہی حقیقت ہے تو پھر اس کا زیادہ زور شور پاک و ہند میں ہی کیوں ہے؟ دوسرے مالک میں اس کا نام و نشان تک کیوں نہیں؟۔

اولاً تو یہ بات مخفی جہالت پر مبنی ہے۔ دوسرے یہ کہ امام خطابی (ت ۳۸۸-۳۱۹ھ) نے چھوی صدی ہجری میں ہی یہ وضاحت فرمادی تھی کہ ہند کے ساتھ ساتھ عرب، فارس اور روم کی اقوام جادو کی حقیقت پر متفق ہیں۔^(۱) تیسرا یہ کہ عقل پرستوں کے علاوہ آج بھی مغرب میں جادو کے قائل موجود ہیں (بانخوص یہود و نصاری) اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی مذہبی کتب میں بھی جادو کو بطور ایک حقیقت کے ذکر کیا گیا ہے۔ نیز اس بات کی تائید اہل مغرب کے ہاں معروف ان قصور کہانیوں سے بھی ہوتی ہے جن میں جادو جنات کا تذکرہ ہے جیسا کہ انگلینڈ (England) کے جنوب مغرب میں ایک ملک ہے جس کا نام کارن وال (Cornwall) ہے۔ آرٹھوری این داستانوں (Arthurian Legend)^(۲) کے مطابق اس ملک میں سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی عمار ہے جہاں مرن (Merlin)^(۳) جادوگر کا بھوت اکثر آیا جایا کرتا تھا اور جب بھی سمندر کی کوئی

(۱) اکمافی شرح السنۃ (۱۸۷/۱۲) (۱۸۸-۱۸۷)

(۲) [یہ کہانیوں اور انسانوں کا ایک مجموعہ ہے جو مختلف زبانوں میں موجود ہے۔ ان انسانوں کا تعلق برطانیہ کے پرانے باشناہ گلگ آرٹھر (King Arthur) سے ہے۔]

(۳) اگلگ آرٹھر کا محافظ اور اسے منفرد مشورے دینے والا جادوگر۔

لہر اٹھتی اور اس غار سے پانی رہتا تو وہ بڑی بھیا نک آوازیں نکالا کرتا تھا۔^(۱)

سمیانی پر حبادو ہوا تھا؟

حدیث صحیح بخاری

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس کے متعلق صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث موجود ہے اور کچھ کمی میشی کے ساتھ ہے یہ روایت دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہی باعث ہے کہ متعدد محدثین نے اسے اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ اور جس طرح یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ترین درجہ پر ہے جسے قطعاً چیخ نہیں کیا جاسکتا اسی طرح یہ حدیث اپنے معنی و مشہوم میں بھی واضح ہے جس میں کسی بھی قسم کی تاویل کی گنجائش نہیں اور اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ اس حدیث کے الفاظ آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ﴿سَحْرَ رَسُولِ اللَّهِ يُحَبِّبُ رَجُلٌ مِنْ بَنِ زَرِيقٍ مُقَالُهُ لَيْدُ بْنُ الْأَعْصَمِ حَتَّىٰ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وُهُوَ عِنْدِنِي لَكَنَّهُ دَعَا وَدَعَاهُ قَالَ يَا عَائِشَةَ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانَيْ ... قَدْ عَافَانِيَ اللَّهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُثُورَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًا فَامْرَأْتِهَا فَلَدْفَنْتُ﴾

”بنی زریق کے ایک (یہودی) شخص لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا (راوی نے بیان کیا کہ) ایک رات آپ میرے ہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ! تمہیں معلوم ہے جو بات میں اللہ سے پوچھا رہا تھا، اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو (فرشتے جریل اور میکا تیل صلی اللہ علیہ وسلم) آئے۔ ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ لکنگھے اور سر کے بال میں جوز بھجور کے خوشی میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ کمزروان کے کنوئیں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنوئیں پر اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ! اس کا پانی ایسا (سرخ) تھا جیسے مہندی کا پھوڑ ہوتا ہے اور اس کے بھجور کے درختوں کے سر (اوپر کا حصہ) شیطان کے

(۱) [Encyclopaedia Britannica] مزید یکھنے:

سرود کی طرح تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ جواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں۔ پھر آپ نے اس جادو کا سامان (کنگھی بال وغیرہ) اسی میں دفن کر دیا۔^(۱)

ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ پر ہونے والے جادو کے اثر کو زانل کرنے کے لئے معوذ تین سورتیں نازل کی گئیں۔ چنانچہ اس میں یہ لفظ ہیں کہ «فَاتَاهُ جِبْرِيلُ فَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِالْمُعْوذَتَيْنِ» ”پھر حضرت جبریل علیہ السلام معوذ تین سورتیں لے کر آپ ﷺ کے پاس تشریف لائے (اور آپ سے کہا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے)۔^(۲)

اہل علم کی آراء

درج بالا صحیح حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعدد کبار علماء نے بھی رائے اختیار کی ہے کہ نبی کریم ﷺ پر جادو ہوا تھا اور جو لوگ اس حدیث کو منصب بوت کے منافی سمجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رفتی چاہیے کہ یہ جادو ایسا نہیں تھا کہ جو بوت یا وحی و شریعت کے کسی امر میں خلل انداز ہوا ہو (مثلاً آپ ﷺ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا نماز چھوڑ دی ہو یا جو وحی نازل نہیں ہوئی آپ نے اسے بطور وحی بیان کر دیا ہو وغیرہ وغیرہ) بلکہ محض اس جادو کا اثر آپ کی ذات (یا جسمانی) حد تک ہی محدود تھا۔ مثلاً آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ گمان کرتے تھے کہ آپ وہ کام کر جائے ہیں، اسی طرح آپ کو گمان ہوتا کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئے ہیں حالانکہ آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں مزید توضیح کے لیے اہل علم کی چند تحریحات، اتوال اور آراء حسب ذیل ہیں، ملاحظہ فرمائیے:

○ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ : کچھ لوگوں نے نبی ﷺ پر ہونے والے جادو کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کیونکہ یہ نقص ہے۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کیونکہ آپ ﷺ پر جادو ہوا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو دیگر جسمانی امراض لاحق ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ جادو بھی ایک مرض ہی ہے۔ مزید برآں جیسے آپ کو زہر کے ذریعے تکلیف پہنچی تھی اسی طرح جادو کے ذریعے بھی تکلیف پہنچی۔ چنانچہ صحیعین میں حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ پر جادو ہوا تھا۔ جس کا اثر یہ تھا کہ آپ گمان کرتے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں لیکن درحقیقت آپ نہیں گئے ہوتے تھے اور یہ جادو کی سب سے سخت صورت ہے۔^(۳)

(۱) [بخاری (۵۷۶۲) کتاب الطب: باب السحر، طرانی کبیر (۵۰۱۶) الحد (۶۲،۵۷/۶)]

(۲) [صحیح: السلسلة الصحيحة (۲۷۶۱) طرانی کبیر (۲۰۱۱/۵) حاکم (۳۶۰۱/۴)]

(۳) [زاد المعاد (۱۱۳/۴)]

○ امام بغوی رض: درج بالصحیح بخاری کی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ ﴿هذا حَدِيثٌ مُتَقَوِّقٌ عَلَى صَحَّةِ ... وَقَوْلُهَا طَبٌ أَنِّي سَخْرٌ ...﴾ اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے... حدیث کے لفظ طب سے مراد جادو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رجل مطبوب یعنی وہ شخص جو جادو زده ہے۔ جادو کے علاج کو کنایہ طب بھی کہا جاتا ہے۔ یماری کے علاج کو طب کہا جاتا ہے اور جادو کے علاج کو بھی کیونکہ جادو سب سے بڑی یماری ہے۔ (۱)

○ امام شعبی رض: تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رض کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہودی چپکے چپکے اس کے پاس آتے رہے۔ بالآخر اس لڑکے نے نبی ﷺ کی نگہمی سے نکلے ہوئے بالوں اور نگہمی کے چند دن انوں کو حاصل کر کے یہودیوں کو دے دیا اور پھر انہوں نے اس میں جادو کر دیا۔ (۲)

○ امام قرطبی رض: فرماتے ہیں کہ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمَّا حَلَ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ شَفَاعَنِي ...﴾ ”جب نبی ﷺ سے جادو ختم ہوا تو آپ نے فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ شَفَاعَنِي﴾ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعة فرمادی۔“ اور شفاعة صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب (پہلے مرض موجود ہوا اور پھر وہ) ختم ہو جائے۔ لہذا ثابت ہوا کہ آپ ﷺ پر جادو ہوا تھا اور یہ کتاب و سنت کے قطعی دلائل سے بھی ثابت ہے اور اس پر اہل علم کا اجماع بھی ہے۔ اس کے بر عکس معترض وغیرہ جہنوں نے جادو کا انکار کیا ہے ان کی بات قابل اعتبار نہیں کیونکہ جادو کا عمل پہلے زمانوں سے موجود تھا اور بھیل چکا تھا لیکن صحابہ و تابعین میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ (۳)

○ امام ابن حجر طبری رض: روایت یہان فرماتے ہیں کہ جرجیل عليه السلام نبی ﷺ کے پاس آئے اور دریافت کیا، اے محمد! کیا آپ کو کوئی شکایت (یعنی تکلیف) ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر جرجیل عليه السلام نے ان الفاظ میں دم کیا ﴿يَسْمِ اللَّهُ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُوذِنُكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ﴾ ”میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں، ہر اس مرض سے جو آپ کو تکلیف دے اور ہر حسد کرنے والے کے شر اور نظر بدے، اللہ آپ کو شفادے۔“

غالباً یہ شکایت آپ کو جادو کے دن تھی، بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعة فرمادی اور یہودی جادوگروں کا انکار نہیں پرلو نہیا (محمد نسب الرفاعی نے یہ ذکر فرمایا ہے)۔ (۴)

○ حافظ ابن حجر رض: علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ ﴿أَنْكَرَ بَعْضُ الْمُبْتَدَعَةِ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَعَمُوا إِنَّهُ يَحْظُ مَنْصَبَ النَّبُوَةِ ...﴾ ”بعض بدعتی حضرات نے اس حدیث

(۱) اشرح السنۃ (۱۸۶/۱۲) (۵۷۰/۴)

(۲) اکسفی تيسیر العلی القدير (۵۷۱/۴)

(۳) تفسیر قرطبی (۴۶/۲)

(۴) تيسیر العلی القدير (۴۶/۴)

کا انکار کیا ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ نبی ﷺ پر جادو کا اثر ہونا منصب نبوت کے منافی ہے۔ ان کے باطل گمان کے مطابق ایسی تمام احادیث قابل تردید ہیں جن میں آپ ﷺ پر جادو ہونے کا ذکر ہے کیونکہ ان کے مطابق اگر ان روایات کو تسلیم کر لیا جائے تو کئی شرعی مسائل میں خلل واقع ہوتا ہے جیسا کہ اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے یہ گمان کیا ہوا کہ آپ جبریل ﷺ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ درحقیقت نہ دیکھ رہے ہوں یا آپ کا گمان ہو کہ وحی نازل ہو رہی ہے اور حقیقت میں ایسا نہ ہو....

امام مازری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام اعتراضات کو مردود فرمادیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ کا پیغام پہنچانے میں معصوم عن الخطأ تھے، لہذا آپ نے مکمل صداقت کے ساتھ پیغام پہنچایا۔ جیسا کہ مجذات بھی آپ کی صداقت کے گواہ ہیں۔ لہذا ان دلائل اور گواہوں کے برخلاف کچھ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تاہم آپ ﷺ بعض دنیوی امور میں جن کا منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں، جو جادو سے متاثر ہوئے تو وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ کو مختلف امراض (بخار وغیرہ) لاحق ہوتے تھے۔ لہذا یہ تو تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ آپ دنیوی امور میں جادو سے متاثر ہوئے تھے مثلاً آپ کو یہ گمان ہوتا کہ ایسا ہوا ہے لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا ہوتا تھا۔ لیکن یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ آپ دنیوی امور میں بھی جادو سے متاثر ہوئے تھے کیونکہ دنیوی امور میں آپ معصوم عن الخطأ تھے۔^(۱)

○ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ «قُدْ أَنْكَرَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِ الطَّيَّابَيِّ السُّخْرَ وَأَبْطَلُوا حَقِيقَتَهُ ...» "بعض طبیعتوں کے ماہرین نے جادو کا انکار کیا ہے اور اس کی حقیقت کو باطل کہا ہے۔ اور کچھ اہل کلام نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ بالفرض اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ پر جادو ہوا تھا تب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وحی و شریعت پر بھی اس کا اثر ہوا ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس (جادو کی حقیقت کو باطل کہنے والوں) کا جواب یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور ثابت ہے۔ عرب، ہندو فارس کی متعدد اقوام اور بعض روی اقوام کا جادو کی موجودگی پر اتفاق ہے... لہذا جادو کا انکار سوائے چہالت کے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ علاوہ ازیں جادو کے اثبات سے شریعت میں لفظ وغیرہ کا دعویٰ بھی درست نہیں۔ کیونکہ جادو کا تعلق مخصوص انبیاء کے جسموں سے ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اس لیے جیسے دوسرے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے جسموں میں جادو کا اثر زہر اور قتل سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ ان کا امراض میں مبتلا ہونا، زکریا عليه السلام اور ان کے بیٹے کا قتل کیا جانا اور ہمارے پیغمبر ﷺ کو خیر میں زہر دیا جانا ناقابل انکار حقائق ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں جو شریعت دے کر بھیجا تھا اس میں وہ معصوم تھے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظت اس لیے تھی تاکہ وحی و شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی یا بگاث پیدا نہ ہو۔

(۱) فتح الباری (۲۶۱۰)

سکے... لہذا نبی ﷺ پر جادو کا اثر ہونا آپ کی نبوت و شریعت کے لیے بالکل باعث نقصان نہیں۔^(۱)

○ قاضی عیاض رضی اللہ عنہ: «وَالسَّخْرُ مَرَضٌ مِّنَ الْأَمْرَاضِ وَعَارِضٌ مِّنَ الْعِلَلِ يَجُوزُ عَلَيْهِ كَأَنَّوْاعَ الْأَمْرَاضِ مِمَّا لَا يُنْكِرُ ...» جادو بھی ایک بیماری ہے جس میں آپ ﷺ بتلا ہو سکتے ہیں بعینہ جیسے دوسری بیماریوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ منصب نبوت کے لیے کسی شخص یا عیوب کا باعث ہیں۔ اور (جادو کے اثر سے) آپ کا یہ گمان کرنا کہ آپ نے کچھ کیا ہے جبکہ فی الواقع آپ نے کچھ نہ کیا ہوتا تھا تو یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ کی صداقت کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی صداقت پر تو واضح دلائل موجود ہیں اور آپ کے معصوم عن الخطأ ہونے پر بھی امت کا جماعت ہے۔ اور جہاں تک آپ پر جادو کے اثر کا تعلق ہے تو وہ صرف دنیوی معاملات میں تھا جن کے لیے نہ تو آپ مبعوث کیے گئے تھے اور نہ ہی ان میں آپ کو کوئی استثناء حاصل تھا بلکہ ان دنیوی امور میں آپ بھی دوسرے انسانوں کی طرح آفات کا شکار ہوتے تھے۔ لہذا دنیوی امور میں یہ بعد نہیں کہ آپ خلاف حقیقت کچھ سوچیں یا خیال کریں کیونکہ کچھ دیر بعد ہی آپ پر حقیقت واضح بھی ہو جاتی تھی۔^(۲)

○ سابق مفتی اعظم سعودیہ شیخ ابن باز رضی اللہ عنہ: رسول اللہ ﷺ پر جادو ثابت ہے البتہ اس کا اثر رسالت کے کسی معاملے پر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی تائیری تو محض آپ (کی ذات) اور آپ کے اہل خانہ سے متعلقہ معاملات تک محدود تھی جیسا کہ صحیحین میں ہے۔^(۳)

نبی ﷺ پر جادو کے منکرین اور ان کے اعتراضات

صحیح بخاری کی واضح حدیث اور درج بالا کبار علماء کی تصریحات کے برخلاف کچھ حضرات نے نبی ﷺ پر جادو کا انکار کیا ہے، ان میں سے چند ایک کا بیان حسب ذیل ہے:

○ معتزلہ: نبی ﷺ پر جادو کا انکار کرنے والے ایک تو معتزلہ ہیں جیسا کہ امام قرطبی رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے۔^(۴) وہ اسے آپ کی عصمت کے خلاف سمجھتے ہیں، ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے «وَاللَّهُ يَعْصِمُ مِنَ النَّاسِ» [المائدہ: ۶۷] ”اوَرَ اللَّهُ تَعَالَى آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔“

○ ابو بکر اصم رضی اللہ عنہ: انہوں نے بیان کیا ہے کہ «أَنَّ حَدِيثَ سِحْرِهِ ﷺ الْمَرْوِيُّ هُنَّا مَتْرُوكُ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ صِدْقٍ قَوْلُ الْكُفَّارِ أَنَّهُ مَسْحُورٌ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنِصْرِ الْقُرْآنِ حَيْثُ أَكَذَّبُهُمُ اللَّهُ» ”نبی ﷺ پر جادو کے جانے کی حدیث متروک ہے کیونکہ اس سے کافروں کی یہ بات کج ثابت ہوتی ہے کہ آپ ﷺ پر جادو کیا ہوا ہے۔ اور یہ نص قرآنی کے بھی خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان (کافروں) کو

(۱) [کما فی شریح السنۃ للبغوی (۱۸۷-۱۸۸)] (۲) [کما فی الطب النبوی لابن القیم (ص: ۱۲۴)]

(۳) [التعليق المفيد (ص: ۱۴۲)] (۴) [تفہیم قرطبی (۲/۴۶)]

جھوٹا قرار دیا ہے (جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی ﷺ پر جادو کیا ہوا ہے)۔^(۱)

○ علامہ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ: اپنی تفسیر [محاسن التاویل] میں نقل فرماتے ہیں کہ ﴿وَلَا عَرَابَةَ فِي أَنْ لَا يَقْبَلَ هَذَا الْخَبَرَ ...﴾ "اس (نبی ﷺ پر جادو کے متعلق) خبر کو مقبول نہ کرنے میں کوئی تعجب کی بات نہیں اگرچہ صحیح کتب حدیث میں مردی ہے، اس لئے کہ ان کتب میں نقل کی جانے والی ہر روایت سند یا متن کے نقد سے سالم نہیں جیسا کہ راغع علمایہ بات بخوبی جانتے ہیں۔"^(۲)

○ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ: نبی ﷺ پر جادو کی روایات کے متعلق فرماتے ہیں کہ ﴿وَلَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ تُخَالِفُ أَصْلَ الْعِصْمَةِ النَّبُوَيَّةِ فِي الْفَعْلِ وَالتَّبْلِيهِ ...﴾ "(اگرچہ یہ روایات صحیح ہیں) لیکن قول فعل میں عصمت نبوی کے خلاف ہیں اور ان کی بیان پر اعتقاد کھلی درست نہیں کیونکہ آپ ﷺ کا ہر فعل اور ہر قول سنت و شریعت کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ روایات قرآن کے بھی متصادم ہیں کیونکہ قرآن نے رسول اللہ ﷺ سے جادو کی فنی کی ہے اور ان مشرکین کی تکذیب کی ہے جو آپ پر یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے (کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے)۔ (نیز یہ روایات اخبار آحاد ہیں) اور اخبار آحاد سے اعتقادی مسائل اخذ نہیں کیے جاتے کیونکہ اعتقادی مسائل کے لیے مرجم قرآن ہے اور اصول اعتقاد میں حدیث کا متواتر ہونا شرط ہے جبکہ یہ روایات متواتر نہیں۔"^(۳)

○ شیخ محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ: فرماتے ہیں کہ ﴿وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُقْلَدِينَ الَّذِينَ لَا يَعْقُلُونَ مَا النُّبُوَّةُ وَلَا يَنْبَغِي لَهَا إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ يَتَأَبَّلُ السُّحْرِ قَدْ صَحَّ ... وَهُوَ مَمَّا يَضُدُّ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ تَتَبَّعُونَ إِلَارَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الفرقان: ۸] "بہت سے مقلد حضرات جو نہیں سمجھتے کہ نبوت کیا ہے اور کیا اس کے لائق ہے، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ (نبی ﷺ پر) جادو کی تاثیر والی روایات صحیح ہے... حالانکہ یہ روایت تو مشرکین کی اس بات کی قدریت کرتی ہے کہ "نہیں تم پروری کرتے مگر ایسے آدمی کی جو جادو کیا ہوا ہے۔"^(۴)

○ محمد امین شیخو: ان کا کہنا ہے کہ ﴿إِنَّ كُلَّ مَا قِيلَ عَنِ الرَّسُولِ الْكَرِيمِ مَنِ اَنَّهُ سُحْرٌ وَيَقِيَ تَحْتَ تَأْبِيلِ السُّحْرِ ...﴾ "رسول اللہ ﷺ کے متعلق ایسا جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا اور کئی ماہ آپ جادو اور شیاطین کے زیر اثر ہے، یہ حاضر ذیل یہودیوں کی دیسیس کاری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ان کی خیانتوں کی وجہ سے جزیرہ عرب سے باہر نکلوادیا تھا۔"^(۵)

(۱) [نقلہ النووی فی المجموع (۲۴۲: ۱۹)]

(۲) [محاسن التاویل للقاسمی (تحت سورۃ الفلق : آیت ۴)]

(۳) [تفسیر فی طلال القرآن (۱۳۳۸: ۱۰)]

(۴) [نقلہ الشیخ علی بن نايف الشحود فی المفصل فی الرد علی شبہات اعداد الاسلام (۳۷۵: ۱۰)]

(۵) اکشف خفايا علوم السحر (ص: ۲۴۷-۲۴۸)

○ ڈاکٹر قمر زمان: اپنے ایک مضمون (رسول اللہ ﷺ پر جادو کی حقیقت) میں رقمطراز ہیں کہ ”یہ عقیدہ کہ رسالت آب (ﷺ) پر جادو ہوا تھا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف رسالت آب کی کردار کشی کی گئی ہے بلکہ ساتھ مسلمان کے ایمان پر بھی ضرب لگائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو یہ بات دراصل اس لیے باور کرائی جاتی ہے کہ یہ ثابت کیا جاسکے کہ جو کچھ رسالت آب نے کہا وہ ہو سکتا ہے جادو کے زیر اثر کہا ہو۔ یعنی قرآن کی حکایت کو مشکوک کرنے کی سازش کی گئی ہے۔“^(۱)

درج بالا اور دیگر معتبر شخصیں نے صحیح بخاری کی حدیث کو رد کرنے کے لیے جن امور کو پیش نظر رکھا ہے ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

* یہ حدیث منصب نبوت کے منافی ہے۔

* یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔

* جادو شیطانی عمل ہے اور شیطان کو اللہ کے بندوں پر کوئی غلبہ نہیں جیسا کہ قرآن میں ہے کہ «إِنَّ عَبْدَهُ مِنْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ» [بنی اسرائیل : ۶۵] لہذا نبی ﷺ پر جادو نہیں ہوا۔

* یہ مسئلہ اعتقادی ہے اور اعتقادی مسئلہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، جبکہ جادو کی احادیث خبر واحد ہیں۔

* اگر بالفرض نبی ﷺ پر جادو ہوا بھی تھا تو آپ نے جادو گر کو قتل کیوں نہ کرایا۔ حالانکہ جادو گر کی سزا قتل ہے جیسا کہ شرعی طور پر یہ ثابت ہے۔

* نبی ﷺ پر جادو والی بات یہود نے گھری ہے کیونکہ آپ نے انہیں جلاوطن کر دیا تھا۔

ان تمام اعتراضات کے بالترتیب جوابات آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیے۔

اعتراضات کے جوابات

① اعتراض: یہ حدیث منصب نبوت کے منافی ہے۔

1- اس کے متعلق اولاً تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ کسی بھی نبی پر جادو کا اثر ہونا اس حدیث سے ہی نہیں بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿فَإِذَا حَجَأُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِمْ سِحْرُهُمْ أَتَهَا تَشْعِيٰ﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُؤْسِيٰ قُلْتَ أَلَا تَخْفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى^(۲) [اطہ: ۶۸-۶۶] ”پھر ان کے جادو کے اثر سے ان (موسیٰ علیہ السلام) کو ایسے معلوم ہونے لگا کہ ان کی رسیاں اور لاثیاں دوز بھاگ رہی ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ذر محسوں کیا، ہم نے (بذریعہ وحی) فرمایا کہ ذر وحیت، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔“

معلوم ہوا کہ موسیٰ ﷺ پر جادو کا اثر ہوا تھا۔ اسی لیے انہیں رسایا اور لاٹھیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جادو ہونا منصب بوت کے منافی ہے تو ہمیں اس قرآنی آیت کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ لہذا حقیقت یہی ہے کہ موسیٰ ﷺ جیسے اولو العزم پیغمبر کی طرح حضرت محمد ﷺ پر بھی جادو کا امکان ہے اور اسی کا بیان حدیث شریف میں ہے۔

2۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی ﷺ پر جادو کی اثر ہونے کی صورت میں یہ بات لازمی ہے کہ آپ سے کسی دینی معاملے میں، وحی سننے یا آگے پہنچانے میں یا کسی اور شرعی کام میں غلطی ضرور سرزد ہوتی جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ پر جادو بھی نہیں ہوا۔

اس بارے میں یہ یاد رہے کہ اس جادو کا اثر آپ ﷺ پر بھض جسمانی طور پر ہوا تھا جس کا تعلق (مختلف امراض کی طرح) آپ کی ذات کی حد تک تو تھا لیکن دینی معاملات اور تکلیف دین سے متعلقہ امور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ جس شریعت کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا تھا اس میں آپ معصوم تھے اور ہمہ وقت اللہ کی گرانی میں تھے، لہذا آپ پر جادو کا اثر ہونا آپ کی بوت و شریعت کے لیے قطعاً باعث نقصان نہیں تھا۔ امام خطابی،^(۱) علامہ مازری^(۲) اور قاضی عیاض^(۳) نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔

مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ ”اس جادو کا اثر نبی ﷺ پر ہوتے ہوتے پورا ایک سال لگا، دوسری ششماہی میں کچھ تغیری مزاج محسوس ہونا شروع ہوا، آخری چالیس دن سخت اور آخری تین دن زیادہ سخت گزرے۔ مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جواہر حضور ﷺ پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازدواج کے متعلق خیال فرماتے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ کے فراکض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ دی ہو یا اپنی صحبوتوں میں اور اپنے عظنوں اور خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو یا کوئی ایسا کلام آپ نے دھی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو نی الواقع آپ پر نازل نہ ہوا ہو یا آپ سے نماز چھوٹ گئی ہو اور اس کے متعلق بھی کبھی آپ نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لی نہ ہو۔ ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش آ

(۱) [کمافی شرح السنۃ للبغوی (۱۸۷۱۲)]

(۲) [فتح الباری (۲۲۷۱۰)]

(۳) [کمافی الطبل البیوی لابن القیم (ص: ۱۲۴)]

جاتی تو دھوم بھی جاتی اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی طاقت چت نہ کر سکتی تھی اسے ایک جادوگر کے جادو نے چت کر دیا لیکن آپ کی حیثیت بہوت اس سے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے... اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے منصب بہوت میں قادر ہو۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جاسکتا تھا جیسا کہ جنگِ احد میں ہوا، اگر آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، اگر آپ کو پچھوکاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور احادیث میں وارد ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی اس تحفظ کے منافی نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے۔^(۱)

3- تیسرے یہ کہ نبی ﷺ پر جادو ہونا اس لیے بھی ناممکن نہیں کیونکہ آپ بھی ایک انسان ہی تھے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ﴿قُلْ إِنَّمَا آذَا بَشَرٍ مَّا فُلِكَهُ﴾ (اے پغیرہ!) کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں۔^(۲) [الکھف : ۱۱۰] الہذا وسرے انسانوں کی طرح آپ کو امراض یا کالیف کا لاحق ہونا کچھ بعدینہیں۔ یہی باعث ہے کہ آپ مختلف اوقات میں بیمار بھی ہوئے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ﴿فَلَمَّا مَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ...﴾ ”جب نبی ﷺ بیمار ہوئے تو فاطمہؓ تشریف لائیں۔“^(۳) واضح رہے کہ آپ ﷺ پر جادو کا اثر بھی بیماری کی ایک قسم تھی۔ جیسا کہ عافظ ابن حجر ؓ نے علامہ مازری ؓ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ درحقیقت یہ نقصان اس جنس سے تھا جو آپ ﷺ کو تمام امراض کے ضرر کی صورت میں پہنچتا تھا، مثلاً کے طور پر بولنے میں کمزوری کا احساس یا بعض کاموں کو نہ کر سکنا وغیرہ۔^(۴)

② اعتراض : یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ مشرکین نبی ﷺ پر الزام لگایا کرتے تھے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا۔ اور اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو مشرکین کی بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے (کہ اس شخص پر کسی نے جادو کر دیا ہے اسی لیے یہ بہوت ورسالت اور آخرت کے حساب و کتاب کے عجیب و غریب دعوے کرتا ہے) اور یوں قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے۔

1- اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مشرکین کے الزام اور حدیث عائشہؓ کا الغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں اصلاً کوئی تعارض ہے ہی نہیں بلکہ ہمارے اپنے فہم میں ہی نقص ہے۔ کیونکہ قرآن میں مشرکین کے حوالے سے جس جادو کے الزام کا ذکر ہے اس کا تعلق وحی و رسالت سے ہے جبکہ حدیث میں جس جادو کا ذکر ہے اس کا تعلق وحی سے نہیں بلکہ حضر آپ ﷺ کی ذات سے ہے۔ یعنی مشرکین نے آپ کو جادو زدہ اس وقت کہا

(۱) انہیم القرآن از مولانا مودودی (۵۵۶-۵۵۶) [۱۶/۴۵]

(۲) [صحيح: صحيح نرمذی (۳۰۳۹) ترمذی (۲۸۷۲)]

(۳) [فتح الباری (۲۲۷/۱۰)]

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَدَّاً دُوْلَیْ حَقِیْقَتٍ اور اس کا علاج

جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے ان کا مقصود لوگوں کو تفسیر کرنا تھا کہ یہ شخص جو رسالت و آخرت کی باتیں کر رہا ہے یہ اس پر جادوئی اثر کا نتیجہ ہے، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حدیث عائشہؓ کے مطابق آپ ﷺ پر جو جادو ہوا اس سے نبوت متاثر نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی آپ نے عبادت میں کوتا ہی کی تھی بلکہ محض اس کا اثر جسمانی تھا (اس حوالے سے کچھ تفصیل گزشت اعتراض کے جواب کے تحت بھی گزر چکی ہے)۔ یوں قرآن اور حدیث کا ظاہری تعارض رفع ہو جاتا ہے۔

2- یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ مشرکین نے جب آپ ﷺ پر جادو زدہ ہونے کا الزام لگایا تھا وہ کلی دور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید بھی فرمادی تھی لیکن جب حدیث عائشہؓ پر جادو والا واقعہ پیش آیا تو آپ مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً کفار کے الزام سے متعلقہ آیات اور آپ ﷺ پر جادو سے متعلقہ احادیث کے سیاق و سبق اور موقع محل میں بھی فرق ہے۔ لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

3- مزید برآں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب حدیث عائشہؓ پر جادو والا واقعہ پیش آیا تو مشرکین نے یہ شور کیوں نہ مجاہا کہ ”دیکھا! ہم صحیح کہتے تھے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔“ اس واقعہ کے بعد مشرکین کی خاموشی یہ ثابت کرتی ہے کہ مکہ میں ان کا اعتراض محض نبوت و رسالت کے انکار کی غرض سے تھا ایسے وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ پیغمبر پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔

شیخ ابن تیمیہؓ نے بھی اس اعتراض کا نہایت عمدہ جواب دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشرکین نبی ﷺ کوئی سے متعلقہ امور میں حمزہ زدہ کہتے تھے جبکہ جو جادو آپ پر ہوا تھا اس کا تعلق نہ تو وہی کے ساتھ تھا اور نہ ہی عبادات کے ساتھ۔ اس لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ نصوص کا صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح احادیث کی تکذیب کر دی جائے۔^(۱)

③ اعتراض: جادو شیطانی عمل ہے اور شیطان کو اللہ کے بندوں پر کوئی غالبہ نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان سے مخاطب ہو کر جو یہ ذکر فرمایا ہے کہ ﴿إِنَّ عَبَادَتِي لَيُسَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ﴾ [سنبی اسرائیل: ۶۵] ”بیشک میرے پے بندوں پر تیر اکوئی قابو یا غلبہ نہیں۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان گناہ اور برائی کے کاموں کو مزین کر کے اللہ کے نیک بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ﴿لَا گُويَّتْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ۴۰ - ۳۹] ”میں ضرور ان سب کو گراہ کر دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔“ معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں شیطانی تسلط کا مطلب یہ

(۱) افہم العبادات (ص: ۵۹)

الْفَلَيْهِ مِنَ الْمُنْذَنِ
بَادِيَ حَقِيقَتُ اُولَئِكَ الْمَلَائِكَ

ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ کر کے برائی میں بنتا نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ انہیں جسمانی طور پر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔

جبکہ اس کے برعکس قرآن کریم سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ شیطان اللہ کے نیک بندوں کو بھی جسمانی طور پر اذیت پہنچا سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ مذکور ہیں کہ ﴿أَنِّي مَسْئِنٌ الشَّيْطَنُ بِإِنْصَابٍ وَعَذَابٍ﴾ [ص: ۴۱] ”بیشک مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔“ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں لیکن جب جادوگروں نے رسیاں پھینکیں تو جادو کے اثر سے انہیں بھی وہ دوڑتی ہوئی نظر آئے گیں۔^(۱) بس اسی طرح کا اثر رسول اللہ ﷺ پر بھی ہوا تھا کہ آپ کو خیال گزرتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں کیا ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہر گز نہیں ہوا کہ جادو کے اثر سے آپ نے وحی لیئے، اسے آگے پہنچنے یا عبادات سے متعلقہ کسی کام میں کوتا ہی کی ہو کیونکہ نصوص اس بات پر شاہد ہیں کہ پیغمبر مقصوم ہوتے ہیں۔ لہذا وہ حالت جو جادو کے اثر سے نبی ﷺ کو پیش آئی تھی یہ آیت اس پر منطبق ہی نہیں ہوتی۔

۴۔ اختراض: یہ مسئلہ اعتمادی ہے اور اعتمادی مسئلہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، جبکہ نبی ﷺ پر جادو کی احادیث خبر واحد ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اختراض ہی بے بنیاد ہے کہ اعتمادی مسئلہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بہت سے دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ”خبر واحد احکام کی طرح عقائد میں بھی جلت ہے“ (بشریہ کے اس میں مکمل شرائط صحیح موجود ہوں)۔ اس کی ایک دلیل وہ روایت ہے جس میں مذکور ہے کہ اہل یمن نبی ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے آدمی کو پھیجنیں جو نہیں سنت اور اسلام سکھائے تو آپ نے ابو عبیدہ بن الجوزی کا یہ تھکر پڑا اور فرمایا ﴿هَذَا أَمِينٌ هُذِهِ الْأُمَّةُ﴾ ”یہ اس امت کے امین ہیں۔“^(۲) اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خبر واحد عقائد میں بھی جلت ہے کیونکہ نبی ﷺ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجوزی کو حض احکام سکھانے کے لیے اہل یمن کے ساتھ روانہ نہیں فرمایا تھا بلکہ عقائد سکھانا بھی مقصود تھا اور اگر بالفرض خبر واحد عقائد میں جلت نہ ہوتی تو آپ ﷺ اہل یمن کے ساتھ ابو عبیدہ بن الجوزی کو اسکے بھی روانہ نہ فرماتے۔

علاوہ ازیں متعدد کبار اہل علم نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے کہ خبر واحد عقائد میں بھی جلت ہے چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جملتہ نے فرمایا ہے کہ ((وَمَا صَحَّ مِنَ السُّنَّةِ - مِنْ أَخْبَارِ الْأَحَادِ وَغَيْرِهِ - هُوَ حُجَّةٌ فِي الْعَقَائِدِ كَمَا أَنَّهُ حُجَّةٌ فِي غَيْرِهَا)) ”جو بھی سنت ثابت ہو خواہ اخبار آحاد ہو یا کچھ اور وہ عقائد

(۱) اطہ: ۶۶

(۲) امسلم (۱۲۹۷) کتاب فضائل الصحابة: باب فضائل ابی عبیدۃ بن الحجاج

جَبَّادُوكِيَّتِقْسِطُ اور اس کا علاج

میں بھی جوت ہے جیسے اس کے علاوہ (احکام وغیرہ) میں جوت ہے۔^(۱) امام شافعی^(۲)، امام ابن قیم^(۳) اور امام ابن عبدالبر^(۴) نے بھی یہی رائے اختیار کی ہے۔ شیخ علی بن نایف الشود قطر از پیں کہ ”خبر واحد جسے محدثین صحیح تراویدیں اور اسے قول کریں تو وہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجماع کے ساتھ جوت ہے۔ کیونکہ یہ لوگ عقائد سے متعلقہ اخبار آحاد بھی روایت کرتے تھے اور جن امور غیریہ وغیرہ پر وہ مشتمل ہوتیں ان کا بھی اعتقاد رکھتے تھے، عقائد اور احکام کے حوالے سے ان میں کچھ فرق نہیں کرتے تھے۔“^(۵)

لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک صحیح حدیث کو حسن خبر واحد ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے۔ مزید برآں یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث کو رد کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی تمام احادیث کی صحت پر محدثین و فقہاء کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔^(۶)

۵ اعتراف: اگر بالفرض نبی ﷺ پر جادو ہوا بھی تھا تو آپ نے جادوگر کو قتل کیوں نہ کرایا۔

اس کے اہل علم نے مختلف جوابات دیئے ہیں مثلاً:

- ۱- آپ ﷺ نے اسے اس لیے قتل نہیں کرایا کیونکہ آپ اپنے نفس کے لیے بھی انتقام نہیں لیتے تھے۔
- ۲- ممکن ہے یہ واقعہ جادوگر کی حد (قتل) مقرر ہونے سے پہلے کا ہو۔

-۳- اس وقت یہودی قوت میں تھے اس لیے فتنے کے ڈر سے آپ ﷺ نے اسے قتل نہیں کرایا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا تو پھر خلفاء راشدین نے انہیں قتل کیا۔

۶ اعتراف: نبی ﷺ پر جادو والی بات یہود نے گھری ہے کیونکہ آپ نے انہیں جلاوطن کر دیا تھا۔ یہ بھی حضور ایک سفید جھوٹ ہے کیونکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین وغیرہ اور اسے نقل کرنے والے محدثین، مفسرین اور دیگر اہل علم ایک بھوٹی بات ہی صحیح سمجھ کر بیان کرتے رہے اور انہیں اس کا علم ہی نہ ہوا، پھر آج ۱۳۰۰ سال بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ روایت تو جھوٹی ہے اور یہود کی وضع کردہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا محدثین کے زمانے میں جب اس حدیث کو پڑھا لکھا اور نقل کیا جا رہا تھا تو کسی ایک فرد نے بھی اس کا انکار کیوں نہ کیا اور اسے یہود کی وضع کردہ کیوں نہ کہا؟ اگر ان سب حضرات نے اسے قبول کیا ہے تو اس کے معتبر اور صحیح ہونے میں کیا مشکل باقی رہ جاتا ہے اور پھر

(۱) [موقف ابن تیمیۃ من الاشاعرة (۲۵۸/۱)]

(۲) [الرسالۃ للامام الشافعی (ص: ۴۵۷)]

(۳) [محتصر الصواعق المرسلة (ص: ۵۷۷)]

(۴) [التمہید (۱/۸۱)]

(۵) [المفصل فی الرد علی شبہات اعداء الاسلام (۰/۱۹۱)]

(۶) [ملاظہ فرمائیے: مقدمة ابن الصلاح (ص: ۲۶) مقدمة ابن حذرون (ص: ۴۹۰) مقدمة تحفة الاحوذی (ص: ۴۷)]

یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جن اہل علم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے وہ خود بھی معتبر ہیں اور ان کے پاس اس کی تکمیل معتبر اس نے بھی موجود ہیں لیکن اسے رد کرنے والوں کے پاس کیا ثبوت ہے اور اسے یہود کے ساتھ نہیں کرنے کی کیا دلیل ہے؟ یقیناً کوئی ثبوت بلکہ سوائے چہالت و علمی کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور وہ اس حدیث کو جھوٹ قرار دے کر صرف صحیح بخاری ہی نہیں بلکہ اور بہت سی معتبر کتب حدیث اور کتب تفسیر کو مخنوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ صحیح بخاری کے علاوہ یہ حدیث (کچھ کمی بیش کے ساتھ) صحیح مسلم (۲۱۸۹)، سنن نسائی الکبری (۷۲۱۵)، سنن بخاری (۳۵۸۵)، مندرجہ (۵۷۰/۲)، صحیح ابن حبان (۲۵۸۳)، مصنف ابن ابی شیبہ (۷۸۸)، مصنف عبد الرزاق (۱۱/۱۷) اور مندرجہ اسحاق بن راھویہ (۳۷/۷) وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر طبری (۲/۳۲۷)، تفسیر قرطبی (۲/۳۶)، تفسیر ابن کثیر (۸/۵۳۷)، تفسیر بغوي (۸/۵۹۶)، تفسیر الدر المختار (۳۰/۱۰)، تفسیر روح المعانی (۳۰/۲۸۲)، تفسیر زاد الحمیر (۳/۳۱۲)، تفسیر بیضاوی (۵/۲۲)، تفسیر سعیانی (۹/۱۱)، تفسیر الوسیط (۱/۱۷)، تفسیر الحجر الجیط (۱/۳۳۶) اور تفسیر اضواء البيان (۹/۱۶۱) وغیرہ میں بھی یہ روایت مفسرین نے نقل فرمائی ہے۔ تو کیا یہ سب محدثین اور مفسرین جو اپنی اپنی معتبر کتب میں اس حدیث کو نقل فرمائے ہیں، اس بات سے آشنا ہی نہ تھے کہ یہ تو یہود کی گھڑی ہوئی روایت ہے۔ صحیح رضا رضائلہ اللہ کے بقول یقیناً یہ بات تفسیر و حدیث میں مسلمانوں کی بلند مرتبہ کتب کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔^(۱)

نبی ﷺ پر جادو کے قصے میں دلائلِ نبوت

نبی ﷺ پر جادو کیے جانے سے متعلق روایات کو صحیح تسلیم کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے میں آپ کی نبوت کے بھی بہت سے دلائل موجود ہیں جیسا کہ چند ایک حصہ ذیل ہیں:

- 1- فرشتوں کا آپ ﷺ کے پاس آتا اور آپ کو جادو کرنے والے (البید بن عاصم یہودی) اور جادو کے مقام (زر و آن کے کنوئیں) کے متعلق بتانا آپ کی نبوت کا ثبوت ہے اور اگر بالفرض آپ نبی نہ ہوتے تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا کہ جادو کس نے کیا ہے اور کہاں موجود ہے؟۔

- 2- جادو کے توڑے کے لیے رسول اللہ ﷺ پر موزع تین سورتیں (الفلق اور الناس) نازل کی گئیں۔ یہ بھی ثبوت ہے کہ محمد ﷺ پچے نبی ہیں اسی لیے آپ پر کلام اللہ کی وحی کی گئی۔

- 3- اس قصے میں مستشرقین کی کذب بیانی کا بھی ثبوت ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کے ساتھیوں نے

(۱) [الحادف في القرآن و دين حديث بين الباطنية والإسلام] از محمد رشید رضا، مجلہ المنار (محلہ: ۴۲)

صفحہ: ۳۳) جمادی الآخرة - ۱۳۵۰]

آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے ہر گو شہزادگی سے متعلق حدیثیں گھر لیں۔ اگر ان کی بات درست ہوتی تو صحابہ سب سے پہلے یہ حدیث حذف کرتے کیونکہ اس میں آپ ﷺ کی قدر و منزلت کے نقش کا بیان ہے۔

خلاصہ کلام

حاصل بحث یہ ہے کہ نبی ﷺ پر جادو کے حوالے سے احادیث معتبر کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان کی صحت میں نہ تو سند اکوئی شک ہے اور نہ ہی معنا۔ متعدد کبار اہل علم اور سلف صالحین نے انہی احادیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے اور یہی رائے اختیار کی ہے کہ نبی ﷺ پر جادو ہوا تھا۔ مزید انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اس جادو کا تعلق محض آپ کی ذات کی حد تک تھا، وحی و تشرییعی امور پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑا تھا کیونکہ اس حوالے سے آپ اللہ کی حفاظت میں تھے۔ تاہم جن لوگوں نے مختلف قسم کے اعتراض اٹھا کر ان احادیث کو رد کرنے کی کوشش کی ہے وہ غلطی پر ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اپنی رائے کی تائید کے لیے مختلف قسم کے دلائل کو پیش نظر رکھا ہے مگر ان دلائل سے ان کا مقصود پورا نہیں ہوتا جیسا کہ اس کی تفصیل یتھے ذکر کردی گئی ہے۔

جادو اور جادوگر کا حکم

جادو کرنا، کرانا اور سیکھنا حرام، کبیرہ گناہ اور کفر یہ کام ہے

○ آیات :

- (1) ﴿وَلَكِنَ الشَّيْطَنُ يَكُفُرُ وَأَيُّ عَبْدٌ مُّكْفِرٌ إِلَّا مَا يَكْرَهُ إِنَّمَا يُكَفِّرُ بِمَا أَنْشَأَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ فَإِنَّمَا يُكَافِرُ بِمَا كَانَ إِنْسَانٌ أَنْشَأَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقٍ فَمَنْ يُكَافِرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [آل عمران: ۱۰۲] ”اور لیکن شیاطین نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔“ معلوم ہوا کہ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ اور کسی بھی چیز کا سکھانا اس وقت تک کفر نہیں ہوتا جب تک وہ چیز بذاتِ خود کفر نہ ہو لہذا جادو بذاتِ خود ایک کفر یہ کام ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی وضاحت فرمائی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے شیاطین نے شیاطین کو اسی لیے کافر قرار دیا کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔“^(۱)
- (2) ﴿وَمَا يَعْلَمُنَّ مِنْ أَخْيَالٍ حَتَّىٰ يَقُولُوا إِنَّمَا أَنْجَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرْ﴾ [آل عمران: ۱۰۲] ”اور وہ دونوں (ہاروت و مارت) کسی کو (جادو) نہیں سکھاتے تھے حتیٰ کہ اسے کہتے کہ ہم تو آزمائش ہیں پس تم (جادو سیکھ کے) کفر نہ کرو۔“ آیت کے ان الفاظ ﴿فَلَا تَكُفُرْ﴾ میں تو یہ وضاحت موجود ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ((الآیۃ دلیلٌ علیٰ اَنَّ تَعَلُّمَ السُّسْرُ كُفُرٌ ...)) ”یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے خواہ کوئی اس کا اعتقاد رکھ کر سیکھے یا بغیر اعتقاد کے اور خواہ کوئی جادوگر بننے کے لیے جادو سیکھے یا محض جادو کے دفعیہ کے لیے۔“^(۲)

(۱) [تفسیر قرطبی (۴۳۲)]

(۲) [نبیل المرام (ص: ۲۱)]

حافظ ابن حجر عسکر نے فرمایا ہے کہ ((وَقَدْ اسْتُدِيلَ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ السُّحْرَ كُفْرٌ وَ مَتَعَلِّمُهُ كَافِرٌ ...)) ”اس آیت سے یا استدلال کیا گیا ہے کہ جادو و کفر ہے اور اسے سکھنے والا کافر ہے اور یہ بات جادو کی بعض انواع سے از خود واضح ہو جاتی ہے کہ جن میں شیاطین اور ستاروں کی پوچھا کی جاتی ہے، البتہ جادو کی وہ قسم جس کا تعلق شعبدہ بازی سے ہوتا ہے سکھنے سے اصلاً کفر لازم نہیں آتا۔^(۱)

(۳) ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [البقرة: ۱۰۲] ”اُرلوگ وہ چیز (یعنی جادو) سمجھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے اور انہیں فائدہ نہیں دیتا۔“ معلوم ہوا کہ جادو ایک بے فائدہ کام ہے اور جو کام بے فائدہ ہو اللہ تعالیٰ اسے اینے بندوں کے لئے حائز قرار نہیں دستے۔

(4) ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَشْتَرِبُهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: ٢١٠] "حالات کے وہ جانے تھے کہ جو کوئی جادو اختیار کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو گا۔" یہ آیت نص ہے کہ جادو اختیار کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بالا شبہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وہ کافر ہی ہے۔

(۵) ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمْنُوا وَأَتَقْرَبُوا...﴾ [آل عمران: ۱۰۳] ”اوراگر کسی (جادو سکھنے والے) لوگ صاحب ایمان متنی بن جاتے تو نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا۔“ ان الفاظ سے بھی اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ جادو سکھنے والے کافر ہیں، اسی لیے ان سے ایمان لانے کی تھنا کا اظہار کیا گا ہے۔^(۲)

درج بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ جادو کرنا اور سیکھنا سکھانا حرام اور کفر ہے، مزید اس بارے میں چند احادیث حسب ذیل ہیں، ملاحظہ فرمائے۔

احادیث

(1) فرمان نبوی سے کہ ”سات بلاک کرنے والی اشائے سے بچو (ان میں سے اک سے) خادو۔“^(۲)

(2) حضرت عمران بن حصین رض سے مردی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”وَخُصْ بِهِمْ مِنْ سَبَقَتْ لَهُمْ بِكَلَامِنَا“ نہیں جس نے فال نکالی یا جس کے لیے فال نکالی گئی، یا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، یا جس نے حدود کہاما جس کے لیے حدود کہاما۔^(۴)

(3) حضرت ابو موسیؑ سے مردی روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ﴿ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُذْمِنُ الْخَمْرِ وَ قَاطِعُ الرَّحْمِ وَ مَصْدِقٌ بِالسُّخْرِ﴾ ”تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ

(١) [فتح الباري (٢٢٤/١)] (٢) [تفسير ابن كثير (١٤٤١/١)]

(٣) أبخاري (٦٨٥٧) كتاب الحدود: باب رمي المحسنات، مسلم (٢٥٨) أبو داود (٢٨٧٤)]

[٤) صحيح: السلسلة الصحيحة (٢١٩٥) صحيح الترغيب (٤١) غاية المرام (٢٨٩) رواه البزار و الصبراني]

بَدْوِيْ حَقِيقَةُ اُرَانِ الْعَالَجِ

- شراب پینے والا، رشتہ داری توڑنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا (یعنی اسے درست سمجھنے والا)۔^(۱)
- (۴) فرمان نبوی ہے کہ ”جو شخص کسی عراف یا کاہن (قیاف شناس، عامل یا جادوگر) کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد ﷺ پر نازل کردہ (تمام) تعلیمات کے ساتھ کفر کر دیا۔“^(۲)
- (۵) ایک اور فرمان یوں ہے کہ ”جو کسی عراف (قیاف شناس) کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو چالیس روز اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔“^(۳)

○ اہل علم کے اقوال:

- (نووی ہدایت) جادوئی عمل کرنا حرام اور بالاجماع کبیرہ گناہ ہے اور نبی ﷺ نے اسے سات ہلاک کرنے والی اشیاء میں شمار کیا ہے۔^(۴)
- (ابن قدامة ہدایت) جادو سکھنا اور سکھنا حرام ہے اور ہمیں علم نہیں کہ مل علم میں سے کسی کی بھی رائے اس سے مختلف ہو۔^(۵)

- (محمد بن عثمان ذہبی ہدایت) اپنی معروف کتاب ”الکبار“ میں انہوں نے جادو کو قیسرا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جادو اس لیے کبیرہ گناہ ہے کیونکہ جادو کرنے والا لازماً کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔^(۶)
- (ابن حجر شیخی ہدایت) انہوں نے بھی کبیرہ گناہوں کے بیان پر مستقل اپنی معروف کتاب ”الزواجر“ میں جادو کا ذکر کیا ہے۔^(۷)

- (شیخ ابن باز ہدایت) جادو منکرو شرک ہے کیونکہ یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیاطین کی پوچھ کی جائے اور ان کا تقرب حاصل کیا جائے۔^(۸)

- (شیخ ابن شیمین ہدایت) جادو سکھنا حرام ہے اور اگر یہ شیاطین کی مدد سے کیا جائے تو کفر ہے۔^(۹)
- (سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی) جادو سکھنا حرام ہے خواہ جادوئی عملیات کے لیے اسے سیکھا جائے یا محض کسی دوسرے کے جادو سے بچاؤ کے لیے۔^(۱۰) اور جس روایت میں ہے کہ ”جادو سیکھ لوگر اس پر عمل نہ کرو“ وہ

(۱) [صحیح لغیرہ: صحیح الترغیب (۲۵۳۹) مسند احمد (۳۹۹/۴) ابو علی (۷۲۴۸)]

(۲) [صحیح: صحیح الجامع الصغری (۵۹۳۹) ابو داود (۳۹۰/۴) ابن ماجہ (۶۳۹) ترمذی (۱۳۵)]

(۳) [مسلم: کتاب السلام، صحیح الترغیب (۳۰۴۶) صحیح الجامع الصغری (۵۹۴۰)]

(۴) [کمامی فتح الباری (۲۲۴/۱۰)] (۵) [المسنی لابن قدامة (۲۹۹/۱۲)]

(۶) [كتاب الكباير (ص: ۱۴)] (۷) [الزواجر عن افتراض الكباير (۴۹۷/۲)]

(۸) [التعليق المفيد (ص: ۱۳۹)] (۹) [فقہ العبادات (ص: ۶۸)]

(۱۰) [فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۵۴۹/۱)]

نبی ﷺ سے ثابت نہیں بلکہ موضوع و من گھرست ہے۔^(۱)

(شیخ صالح الفوزان) جادو کی ہر قسم حرام ہے، اس میں بچھ بھی جائز نہیں۔^(۲)

(شیخ عبداللہ بن جاراللہ) جادو حرام ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ کفر اور عقیدہ توحید کے منافی ہے۔^(۳)

جادو و دلخواز سے شرک میں داخل ہے

(شیخ صالح الفوزان) جادو و دلخواز سے شرک میں داخل ہے۔ ایک یہ کہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو انہیں پسند ہوتا کہ وہ جادوگر کا تعاون کریں۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں (جادوگر کی طرف سے) علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ (اس علم میں) مشارکت کا دعویٰ ہے اور یہ کفر اور گمراہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿مَا لَهُ فِي الْأُخْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ کے مطابق جادو کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جادو ایسا کفر و شرک ہے جو عقیدہ باطل کر دیتا ہے اور جادو کرنے والے کے قتل کو واجب کر دیتا ہے، جیسا کہ اکابر صحابة کی ایک جماعت نے جادوگروں کو قتل کیا تھا۔^(۴)

جادوگر کی سزا

جادوگر کی سزا قاتل ہے اور اس کے ولائل حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت جنوب رضی اللہ عنہ سے مروی موقوف روایت میں ہے کہ ﴿ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ ﴾ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے توار کے ساتھ مارا جائے۔^(۵)

(۲) حضرت بجال بن عبدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے تقریباً ایک ماہ پہلے لکھ بھیجا تھا کہ ﴿ أَنْ اُفْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَ سَاحِرَةٍ ﴾ ”کہ ہر جادوگر مردا اور عورت کو قتل کرو۔“ (حضرت بجالہ فرماتے ہیں کہ) ﴿ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَّاحِرٍ ﴾ ”چنانچہ ہم نے ایک دن میں تین جادوگر قتل کر دیے۔“^(۶)

(۳) حضرت هشمت رضی اللہ عنہ نے بھی ایک لوڈی کو قتل کر دیا جس نے آپ پر جادو کرایا تھا۔^(۷)

(۱) فتاویٰ الحجۃ الدائمة للبحوث العلمية والأفتاء [۵۵۱/۱]

(۲) [المتنقی من فتاویٰ الفوزان (۱۰۱)]

(۳) [تذکیر المشر (ص: ۲۹)]

(۴) [كتاب التوحيد للفوزان (ص: ۳۹ - ۴۰)]

(۵) [موقوف: ترمذی (۱۴۶۰) کتاب الحدود: باب ما جاء في حد الساحر، حاکم (۳۶۰۱۴)]

(۶) [صحیح: صحیح ابو داود (۲۶۲۴) کتاب الخراج والاماۃ والغی، باب فی الحد الجزیہ من المحوس، ابو داود (۳۰۴۳) مسند احمد (۱۹۰۱) عبد الرزاق (۱۸۷۴۵)]

(۷) [موطا (۸۷۱/۲) عبد الرزاق (۱۸۷۴۷) بیهقی (۱۳۶/۸)]

(4) امام احمد رضا کا بیان ہے کہ «صَحَّ عَنْ ثَلَاثَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَتْلِ السَّاجِرِ»^(۱)
”جادوگر قتل کر دینا تین صحابہ سے صحیح ثابت ہے۔“

(5) صحابہ کے اس عمل کو جماعت کی حیثیت حاصل ہے جیسا کہ علمائے اصول نے ذکر فرمایا ہے کہ صحابی کا کوئی قول
یافع مشہور ہو جائے اور اس کا کوئی مخالف بھی ظاہر نہ ہو تو اسے جماعت سکوتی کی حیثیت رکھتا ہے۔^(۲)
(ابن قدامة رضا) جادوگر کافر ہے اسے قتل کر دیا جائے۔^(۳)

(شیخ ابن باز رضا) جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردان مار دی جائے جیسا کہ تین صحابہ سے عمل ثابت ہے۔^(۴)

(شیخ صالح الغوزان) جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص جادوگر ہے تو لوگوں کو اس کے شر سے راحت
پہنچانے کے لیے اس کا قتل واجب ہے کیونکہ وہ کافر ہے اور اس کا شرعاً معاشرے تک پہنچتا ہے۔^(۵)

لئے یہاں یہوضاحت ضروری ہے کہ ائمہٗ تلذذ (امام بالک، امام ابوحنیفہ اور امام احمد رضا) تو اسی کے قائل ہیں
کہ جادوگر کو بہر صورت قتل کر دیا جائے گا۔ جبکہ امام شافعی رضا کا کہنا ہے کہ جادوگر کو صرف اسی صورت میں قتل کیا
جائے گا جب اس نے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو جو کفر تک پہنچتا ہو بصورت دیگر اسے قتل
نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے کوئی اور سزا دی جائے گی۔^(۶) یہی رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ (والله عالم)

اہل کتاب کے جادوگر کا حکم

اس بارے میں امام ابوحنیفہ رضا کی رائے یہ ہے کہ اسے بھی مسلمان جادوگر کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔
ان کا کہنا ہے کہ

1- جادوگر قتل کرنے کے عمومی دلائل میں اہل کتاب کے جادوگر بھی شامل ہیں۔

2- جادوایک جرم ہے جس سے مسلمان کا قتل لازم آتا ہے اور جس طرح مسلمان کے قتل کے بدالے میں ذمی کو
قتل کیا جاتا ہے اسی طرح جادو کے بدالے بھی اسے قتل کیا جائے گا۔

جبکہ ائمہٗ تلذذ (امام احمد، امام بالک اور امام شافعی رضا) نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ اہل کتاب کے جادوگر کو
صرف اس صورت میں قتل کیا جائے گا جب اس نے اپنے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کیا ہو۔^(۷) ان اور ان کے ہم
رائے حضرات کے دلائل یہ ہیں کہ

(۱) [کمامی نفسیر ابن کثیر (۱۴۴۱)] (۲) [اصول الفقه الاسلامی (ص: ۲۳۹)]

(۳) [المضیع لابن قدامة (۵۲۳)] (۴) [حاشیۃ الدروس المهمة (ص: ۱۸۸)]

(۵) [المستقی من فتاوی الغوزان (۱۰۱)]

(۶) [نبیل الاولطار (۶۳۸)] شرح مسلم للنووی (۴۲۷) تحفۃ الاحوڑی (۱۴۸۰-۸۰۳)]

(۷) [البغی (۱۱۵۱)، فتح الباری (۲۳۶۷)، اضواء البيان (۴۷۱)]

- 1- لميد بن عاصم یہودی نے آپ ﷺ پر جادو کیا تھا لیکن آپ نے اسے قتل نہیں کرایا۔
- 2- کتابی شرک ہے اور شرک جادو سے بھی برا گناہ ہے۔ جب اسے شرک کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا تو جادو کی وجہ سے کیوں قتل کیا جائے گا۔
- 3- دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جادوگر کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جادو کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے جبکہ کتابی تو پہلے ہی کافر ہے تو اسے کیونکہ قتل کیا جا سکتا ہے؟۔
- 4- رہی بات یہ کہ ”جادو ایک جرم ہے جو مسلمان کا قتل لازم کر دیتا ہے تو قتل کی طرح ذمی کا قتل بھی لازم کر دیتا ہے“۔ یہ قیاس اس لیے درست نہیں کیونکہ ایک طرف مسلمان ہے اور دوسرا طرف کافر جو کفر یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ تو دونوں کا حکم ایک کیسے ہو سکتا ہے؟۔

بہر حال جو حضرات امام ابوحنیفہ بنcks کے ہم رائے ہیں انہوں نے لمید بن عاصم یہودی کو قتل نہ کرنے کا جواب اس طرح دیا ہے کہ

- 1- آپ ﷺ نے اس لیے قتل نہیں کرایا کیونکہ آپ اپنے نفس کے لیے بھی انتقام نہیں لیتے تھے۔
- 2- ممکن ہے یہ واقعہ جادوگر کی حد (قتل) مقرر ہونے سے پہلے کا ہو۔
- 3- اس وقت یہودی قوت میں تھے اس لیے فتنے کے ذریعے آپ ﷺ نے اسے قتل نہیں کرایا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا تو پھر خلفاء راشدین نے انہیں قتل کیا۔

(ابن قدامة مذکور) اہل کتاب کے جادوگر کو محض اس کے جادو کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر وہ جادو سے کسی کو قتل کر دے تو پھر قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔^(۱)

جادوگر کی توبہ کا حکم

جادوگر کی توبہ کے حوالے سے اختلاف ہے۔ امام احمد، امام مالک اور امام ابوحنیفہ رض کی رائے یہ ہے کہ جادوگر سے توبہ کا مطالبہ کیے بغیر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رض نے جن جادوگروں کو قتل کیا تھا ان سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جبکہ امام احمد رض کا دوسرا قول اور امام شافعی رض کی رائے یہ ہے کہ جادوگر نے اگر جادو سے کسی کو قتل نہیں کیا تو اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو اس سے دنیا میں حد ساقط ہو جائے گی۔ کیونکہ توبہ سے شرک معاف ہو جاتا ہے جو سب سے برا گناہ ہے تو جادو کیوں نہیں؟ جیسا کہ فرمو۔ جادوگروں کا ایمان اور ان کی توبہ بھی قبول کی گئی تھی۔^(۲)

(۱) [المغنى (۱۱۵/۱۰)]

(۲) [المغنى لابن قدامة (۱۵۳/۸) فتاوی السبکی (۲/۳۲۴) فتح القدير (۲/۳۶) تفسیر الرازی (۳/۲۱۵)]

ہی دوسری رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ (واشد اعلم)

(شیخ ابن باز جملہ) جادوگر تو بہ کرائے بغیر قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اس کی تو بہاس سے سزا ساق نہیں کر سکتی۔ اور بعض اوقات وہ جھوٹ بول کر تو بہ ظاہر کر دیتا ہے جس سے لوگوں پر اس کا ضرر باتی رہتا ہے۔ اس لیے جب جادو ثابت ہو جائے تو اسے قتل کر دینا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔^(۱)

جادو سے بچاؤ کی مشکل احتیاطی تذکرہ

جادو واقع ہونے سے پہلے اس سے بچاؤ کی حفاظتی مدد اخیر اختیار کرنا اس سے بہتر ہے کہ جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج تلاش کیا جائے۔ جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ ”پر ہیز علاج سے بہتر ہے۔“ اسے انگلش میں یوں کہا جاتا ہے کہ ”Prevention is better than cure.“ لہذا ذیل میں چند ایسی مدد اخیر ذکر کی جا رہی ہیں جنہیں اختیار کرنے اور ان کی پابندی کرنے سے انسان بالعموم جادو سے بچا رہتا ہے۔

عقیدہ کی درستگی (کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جادو نہیں کر سکتا)

اولاً تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کرے اور پختہ طور پر یہ اعتقاد رکھے کہ ہر تکلیف صرف اللہ کی طرف سے ہی پہنچتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی پکھنہ نہیں بگاڑ سکتا۔ جیسا کہ جادو کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا هُمْ بِضَارٍ بِّهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ۱۰۲] ”اور یہ (جادو کرنے کرانے والے) بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔“

لہذا جب یہ بات طے ہے کہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو تو پھر ہر قسم کی خیر کی طلب اور تکلیف کے دفعیہ کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا

یعنی تمام امور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوامر (حکموں) کی پابندی اور اس کے نواہی (منع کردہ کاموں) سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا۔ کیونکہ جو کبھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے متعقی و پر ہیز گارب نہیں کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت و آزمائش سے نکلنے کی کوئی نہیں ضرور پیدا فرمادیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ هُنْزِجًا﴾ [الطلاق: ۶] ”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے

(۱) الشعلیق المفید (ص: ۱۴۱ - ۱۴۲)

چھکارے کی کوئی صورت نکال دیتا ہے۔

ایک دوسرا ارشاد یوں ہے کہ ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَسْقُوا لَا يَصْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ۱۴۰] ”اگر تم صبر کرو اور پر ہیز گاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔“

اللہ تعالیٰ ہی یہ کامل توکل و بھروسہ رکھنا

یعنی ہر طرح کے حالات میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کامل اعتماد کرنا۔ یہ بھی ہر قسم کے شر سے بچاؤ کا ایک اہم سبب ہے۔ کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے (ہر قسم کی برائی، نقصان، آزمائش اور دشمن کے حملے سے) کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِيبٌ﴾ [الطلاق : ۳] ”اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہو گا۔“

جنات و شاطئین سے پناہ مانگتے رہنا

کیونکہ جادو کے موثر ہونے میں انہی کا اہم کردار ہوتا ہے اور جادوگر بھی انہی کے تعاون سے جادو کرتا ہے۔ اس لیے اسی آیات، دعائیں اور اذکار پر انہوں نے کام عمول بنایے چاہتے ہیں جن میں جنات و شیاطین سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيْطَانُ^(۱) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونَ^(۲)﴾ [المومنون: ۹۷-۹۸] ”اور یوں کہا کرو کہ اے میرے پروردگار! میں شیطاناں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔“

بعوه کھجور کا استعمال

اگر ممکن ہو تو جادو سے بچاؤ کے لیے عجہ کھجور کا استعمال بھی کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رض سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے مَنْ تَصْبَحَ سَبْعَ تَمَرَّاتٍ عَجُوجَةً لَمْ يَضُرِّهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِخْرٌ ۝ ”جس نے صبح کے وقت سات عجہ کھجور میں کھالیں اس دن اسے نہ ہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔^(۱)

امام ابن اثیر طی شرط قطراز ہیں کہ عجود مدینہ کی بھور کی ایک قسم ہے جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور اس کا شیخ خود نبی کریم ﷺ نے لگا تھا۔ (۲)

[١] [بخاري] (٥٧٦٩) كتاب الطب : باب الدواء بالعجمة للسحر

(٢) [النهاية لا يرى الأثير (١٨٨/٣)]

روز مرہ صبح و شام کے اذکار اور دعائیں

یعنی وہ مسنون دعائیں اور اذکار جو نبی ﷺ نے صبح و شام یا سوتے وقت پڑھنے کے لیے سکھائے ہیں۔ ان کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ ان کی پابندی سے انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور ہر قسم کے نقصان اور تکلیف (اور جادو، جنات وغیرہ کے جملوں) سے بھی بچا رہتا ہے۔ چنانہ اذکار و وظائف حسب ذیل ہیں:

۱ ہر فرض نماز کے بعد اور سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو بھی سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ساری رات اس کا محافظہ بنا رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ ^(۱) آیت الکرسی کے الفاظ بمعہ ترجمہ حسب ذیل ہیں:

﴿أَللّٰهُ أَلٰهُ أَلٰهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذْنَا سِنّةً وَلَا تُؤْمِنَّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ لَا يَأْذِنُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلَا يُعْلِمُونَ بِشَيْءٍ وَمَنْ
عُلِمَ إِلَّا مَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْغَنِيُّمُ﴾
[البقرة : ۲۵۵] ”اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اوگھا آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر کر کا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتا تا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔“

۲ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنے سے بھی انسان جادو سے محفوظ رہتا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ﴿إِنَّمَا أَنْزَلْنَا الْبَقْرَةَ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَّ تَرَكَهَا حَسْرَةٌ وَّ لَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ﴾ ”سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا لینا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور باطل والے (یعنی جادوگر اور کاہن قوم کے لوگ) اس (کے توڑے) کی طاقت نہیں رکھتے۔^(۲)

۳ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کے وقت پڑھنا بھی جادو سے بچنے کی ایک اہم تدبیر ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ ﴿مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقْرَةِ فَنِيلَةً كَفَتَاهُ﴾ ”جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیتا ہے، اسے یہ آیات (ہر مشکل سے) کافی ہو جاتی ہیں۔“ ^(۳) آیات حسب ذیل ہیں:

(۱) [ابخاری (۳۲۷۵)، مسلم (۳۱۱)] کتاب فضائل القرآن: باب فضل المعدوات

(۲) [صحیح: صحيح البخاری (۱۴۶۰) السلسلة الصحيحة (۳۹۹۲) مسنون احمد (۲۴۹۱۵) شیخ شعیب ارناووتنے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔] [الموسوعة الحدیثیة (۲۲۲۰)]

(۳) [مسلم (۸۰۷) کتاب صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة و خواتيم سورۃ البقرة، بخاری (۴۰۰۸)]

﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ إِلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلِكِتِهِ وَكُلُّهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا فَغُرْبَانِكَرِبَّنَا وَالنِّيكَالْمَصِيرَ ﴾^(١)
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا
 اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تُخْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُخْمِلْنَا مَا لَا
 طَاقَةَ لَنَا يَهُ وَاعْفْ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْجُنَا اَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ﴾
 [البقرة : ٢٨٥ - ٢٨٦]

”رسول ایمان لا یا اس چیز پر جواس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سناء اور اطاعت کی ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب! اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیک وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے، اے ہمارے رب! اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجہ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب! ہم پر وہ بوجہ نہ ڈال جس کی نہیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگز رفرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کرو تو ہمیں ہمارا لکھ کے ہے؛ ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرم۔“

④ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بکثرت تلاوت کرتے رہنا، بطور خاص برفرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ اور صحیح دشام تین تین مرتبہ۔ فرمان نبوی ہے کہ ”جو شخص یہ سورتیں صحیح دشام تین تین مرتبہ پڑھے گا تو یا سے دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔“^(۱) یہ تینوں سورتیں بعد ترجمہ حسب ذیل ہیں:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾ إِلَهُ الظَّمَدُ إِلَهُ الْقَرِيلُونَ ﴿۲﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿۳﴾﴾
 [سورۃ الاخلاص] ”آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔“

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ^١ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ^٢
 النَّفَخَتِ فِي الْعُقَدِ ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾﴾ [سورۃ الفلق] ”آپ کہہ دیجئے کہ میں صحیح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اور انہیں رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا انہیں اچھیل جائے۔ اور گرہ (کا کرآن) میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی۔ اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔“

(۱) حسن صحیح: صحيح الترغیب (٦٤٩) ابو داود (٥٠٨٢) کتاب الادب: باب ما يقول اذا اصبح

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (امْلِكُ النَّاسِ) ﴿إِلَهُ النَّاسِ﴾ (مَنْ شَرِّ الْوَسَوَاسِ الْخَنَّاسِ) ﴿الَّذِي يُوَسِّعُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ (مَنْ أَجْبَتْ وَالنَّاسِ) (سورة الناس) [۱] آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی (اور) لوگوں کے معبود کی (پناہ میں)، وہ سو سو ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جلوگوں کے سینوں میں وہ سو سو ڈالتا ہے (خواہ) وہ جنون میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔

❸ ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْثَّامَاتِ مَنْ شَرِّيْ مَا خَلَقَ﴾ (میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔)

یہ دعا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے لہوڑ خاص صبح و شام، اسی طرح اسی بھی مقام پر پڑھ کر۔ چنانچہ فرمان نبوی کے مطابق جو شخص بھی کسی مقام پر اتر کر یہ دعا پڑھتا ہے ﴿لَمْ يَضْرُهُ شَرٌّ إِنْ تَحْلَلْ مِنْ مَنْزِلِهِ ذُلْكَ﴾ ”جب تک وہ اس مقام سے کوچ نہیں کرتا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔“ [۲]

❹ ﴿يَسِّمِ اللَّهُ الَّذِي لَا يَضْرُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (میں شروع کرتا ہوں) اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی خوب سننے والا، خوب جانے والا ہے۔“

صح و شام یہ دعا پڑھنا بھی ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ ﴿مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلَّ يَوْمٍ وَ مَسَاءً كُلَّ لَيْلَةٍ ... ثَلَاثَ مَرَاتٍ لَمْ يَضْرُهُ شَرٌّ﴾ ”جو شخص روزانہ صح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھنے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔“ [۳]

ضروری و صاحت: جادو چونکہ جنات و شیاطین کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے اس لیے جادو سے بچاؤ کے لیے وہ تمام مدایر بھی اختیار کرنی چاہیں جو جنات و شیاطین سے بچاؤ کی ہیں اور جنات و شیاطین سے بچاؤ کی مدایر آئندہ باب کے تحت عنوان ”جنات سے بچاؤ کی بیشگی اختیاری مدایر“ کے ذیل میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

حبا دو کا علاج

جادو کا علاج کرنا چاہیے

کیونکہ جادو بھی ایک بیماری ہے جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے

(۱) مسلم (۲۷۰۸) کتاب الذکر والمدعاه: باب فی التَّعوِيدِ مِنْ سُوءِ الْفَضَاءِ وَدِرَكِ الشَّفَاءِ

(۲) حسن صحيح: صحیح ترمذی، ترمذی (۳۳۸۸) ابو داود (۵۰۸۸) صحیح الحجامع الصعیر (۵۷۴۵) [۱]

مِنْ حَدَائِقِ الْحَقِيقَةِ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

کہ ﴿وَالسَّحْرُ مَرَضٌ مِّنَ الْأَمْرَاضِ﴾ جادو بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔^(۱) اور ہر بیماری کا علاج کرنے کی اسلام نے ترغیب دلائی ہے جیسا کہ چند احادیث حسب ذیل ہیں:

(۱) حضرت اسامہ بن شریک رض کا بیان ہے کہ دیہاتیوں نے آکر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا ہم دوام استعمال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے فرمایا ﴿نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَصُحُّ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً﴾ ”ہاں اے اللہ کے بندو! دوام لیا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں بنائی گراس کی شفا بھی بنائی ہے۔^(۲)

(۲) حضرت انس رض سے مروی روایت میں ہے کہ ﴿يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاءُوا فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ﴾ ”اللہ کے بندو! دوام لیا کرو، بلاشبہ جس ذات نے بیماری پیدا کی ہے اس نے (اس کی) دوام بھی پیدا کی ہے۔^(۳)

(۳) فرمان نبوی ہے کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً ، عِلْمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَ جَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کی دوام بھی نازل کی ہے، جس نے اسے جان لیا اس نے اسے جان لیا اور جو اس سے لعلم رہا وہ جاہل ہی رہ گیا۔^(۴)

(۴) ایک اور حدیث میں ہے کہ ﴿لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بِرَأْيِ الْمَادِنِ اللَّهُ﴾ ہر بیماری کی دوام موجود ہے اور جب کسی بیماری کی صحیح دوامیں جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔^(۵)

امام قرقش فرماتے ہیں کہ مجمور علماء کی رائے یہ ہے کہ مریض کو دوام لینی چاہیے۔^(۶) علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ علامہ مازری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ”ہر بیماری کی دوام ہے“، خلاف واقعہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ بہت سے مریض ایسے ہیں جو دوام تو لیتے ہیں لیکن شفایاب نہیں ہوتے۔ تو درحقیقت ایسا اس لینے نہیں ہوتا کہ اس بیماری کی دوام موجود نہیں بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس بیماری کی صحیح دوام کا علم نہیں ہوتا۔^(۷)

بہر حال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کے مریض کو چاہیے کہ اپنا علاج کرانے کیونکہ علاج کرنا شرعی طور پر ثابت

(۱) [الطب النبوى لابن القيم (ص: ۱۲۴)]

(۲) [صحیح : الصحیحة (۴۳۲) صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۰۳۸) ابن ماجہ (۴۶۳۶)]

(۳) [صحیح : غایة المرام (۲۹۲) تحریج مشکلة الفقر (۵) صحیح الجامع الصغیر (۱۷۵۴)]

(۴) [صحیح : السلسلة الصحیحة (۱۶۵۰) مستدرک حاکم (۴۰۱۱۴)]

(۵) [مسلم (۴) کتاب السلام : باب لکل داء دوام واستحباب التداوى]

(۶) [تفسیر القرطبی (۱۳۹۱۰)] (۷) [حاشیة صحیح مسلم (تحت الحديث: ۲۲۰۴)]

ہی نہیں بلکہ اس کی ترغیب والائی گئی ہے۔

جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرانا جائز نہیں

حضرت جابر رض سے روایت ہے کہ ﴿سُئَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النُّشَرَةِ فَقَالَ: هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ ”نبی کرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے نشرہ (یعنی جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے) کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے۔^(۱)

نشرہ سحر زدہ شخص سے جادو کو دور کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک قسم تودہ ہے جو اہل جالمیت میں مروج تھی اور وہ یہ ہے کہ جادو کے ذریعے ہی جادو کا علاج کرنا یہ قطعاً جائز ہے۔ علاوه ازیں مسنون اذکار دعاوں اور شرک سے پاک کلام کے ذریعے جادو کا علاج کرنا درست ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ قادہ رض نے یہاں کیا کہ میں نے سعید بن میتیب رض سے دریافت کیا کہ ﴿رَجُلٌ يَهُ طَبٌ أَوْ يَوْخَدُ عَنْ امْرِ أَيْهَا إِيَّاهُ عَنْهُ أَوْ يَنْشَرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ فَآمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمَّا يُنْهَى عَنْهُ﴾ ”اگر کسی پر جادو ہو جائے یا کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی بیوی کے پاس جانے سے روک دیا جائے تو اس کا دفعیہ کرنا یا اسے زائل کرنے کے لیے کلام استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں (بشر طیکہ وہ کلام شرک پر مشتمل نہ ہو) کیونکہ اس سے پڑھنے والے کا مقصد اصلاح ہے جو چیز نفع رسان ہواں کے استعمال میں کوئی ممانعت نہیں۔^(۲)

(ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ) سحر زدہ شخص سے جادو ختم کرنے کو ”نشرہ“ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم یہ ہے کہ جادو کو جادو کے ذریعے ہی ختم کیا جائے۔ یہ ناجائز اور شیطانی عمل ہے... دوسری صورت یہ ہے کہ دم، تعوذات، ادویات اور مبارح دعاوں کے ذریعے اس کا علاج کیا جائے۔ یہ عمل بلا تردید جائز ہے۔^(۳)

(شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ) جادو کا جو علاج جادو گر کرتے ہیں، یعنی کوئی جانور ذبح کر کے یا کسی اور طریقے سے جن کا تقرب حاصل کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ شیطانی عمل بلکہ شرک اکبر میں سے ہے، اس لیے اس سے پہنچا واجب ہے۔ اسی طرح کا ہنوں اور غیر کی باتیں بتانے والوں سے سوال کرنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کا علاج کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، نیز یہ جھوٹے اور فاجر ہوتے

(۱) [صحیح: هدایۃ الرواۃ (۲۷۹۱)، ابو داود (۳۸۶۸)، کتاب الطب: باب النشرة، مستدرک حاکم (۴۱۸۴) امام حاکم] نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

(۲) [بخاری تعلیقاً (قبل الحدیث ۵۷۶۵)، کتاب الطب: باب هل يستخرج السحر]

(۳) [زاد المعاد (۱۲۴۱)، کتاب التوحید للإمام محمد بن عبد الوهاب، باب ما جاء في النشرة]



ہیں۔ یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور نبی ﷺ نے ان کے پاس جانے اور ان سے سوال کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے۔^(۱)

(شیخ ابن جبرین بن جاشن) جادو کا علاج صرف رحمانی علاج ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے ذریعے ہوتا ہے اور جادو کے علاج کے لیے جادوگروں کے پاس آنا یا جادو کا توڑ جادو کے ذریعے ہی کرانا جائز نہیں۔^(۲)
(شیخ سلیمان بن محمد اللہیمید) جادو کے علاج کا حرام طریقہ یہ ہے کہ جادوگروں اور شعبدہ بازوں کے پاس جا کر جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرایا جائے۔^(۳)

(سعودی مستقل فتویٰ کیمی) جادو کا علاج جادو کے ذریعے جائز نہیں بلکہ جادو کا علاج دم، تلاوت قرآن، مسنون اذکار و ادعیہ اور اللہ تعالیٰ سے شفاء مانگنے کے ذریعے کرنا چاہیے۔^(۴)

معانچے اہل علم اور تجربہ کا رلوگوں میں سے ہو

کیونکہ دیگر امراض کی طرح جادو کے مرض کا علاج بھی وہی کر سکتا ہے جو اس کا تجربہ رکھتا ہو اور شرعی طور پر اس کے علاج سے مکمل طور پر واقف ہو۔ سابق مفتی عظیم سعود یہ شیخ ابن باز جاشن نے بھی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ شرعی طریقے کے مطابق جادو کو اتنا ناصرف اہل علم، صاحب بصیرت اور ماہر تجربہ کا رلوگوں کا ہی کام ہے۔^(۵) لہذا جادو کے علاج کے لیے کسی متفق و پرہیز گارا در ماہر معانچے کو ہی تلاش کرنا چاہیے۔

معانچے کے لیے ضروری ہدایات

اگرچہ دور حاضر میں شرعی طریقے کے مطابق جادو جنات کا علاج کرنے والے ماہرین کی اشد ضرورت ہے کیونکہ نام نہاد عامل، نجومی اور کاہن قسم کے لوگ اس سلسلے میں نہ صرف جاہل عوام کو مگراہ کر رہے ہیں بلکہ ان سے بھاری رقم وصول کر کے انہیں لوٹ بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جادو جنات کے مریض کا علاج کرنا ہر شخص کے لئے کی بات نہیں کیونکہ ایسا کرنے والا خود بھی بعض اوقات بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے مثلاً سب سے بڑا مسئلہ اسے یہ پیش آ سکتا ہے کہ اگر وہ روحانی طور پر کمزور ہے تو جن اس کا سب سے بڑا دشن بن جائے گا اور اسے شکر کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کے پاس خواتین کی آمدورفت بھی اکثر رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہذا روحانی معانچے کے لیے اہل علم نے چند ضروری ہدایات تجویز کی ہیں، جن پر عمل کرنے سے وہ ایسی مشکلات اور ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ان ہدایات کا مختصر بیان حسب ذیل ہے:

(۱) احادو تونی کا علاج (ازدو ترجمہ ”رسانہ فی حکم السحر والکھانہ“) (ص: ۲۵)

(۲) [شرح العقیدة الطحاوية لابن حجرین (۱۹۳/۴)] (۳) [شرح کتاب التوحید (ص: ۱۹۲)]

(۴) [فتاویٰ اللجنۃ الدائمة (۵۶۰/۱)]

(۵) [التعليق المفيد (ص: ۱۵۴)]

- ﴿ اولاً معانٌ لِ اپنا عقیدہ درست کرے اور قول فعل میں ہمیشہ توحید کو پناہ رکھے ۔ ﴾
- ﴿ پختہ طور پر یہ اعتماد رکھے کہ ہر قسم کی بیماری اور اس کی شفا صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی بیمار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شفا دے سکتا ہے ۔ ﴾
- ﴿ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ قرآنی آیات اور مسنون اذکار و دنیا کاف میں ہر قسم کا جسمانی و روحانی موجود علاج ہے اور یہ علاج جنات اور شیاطین کو بھگانے میں بھی تاثیر رکھتا ہے ۔ ﴾
- ﴿ ریا کاری اور شہرت طلبی کے لیے نہیں بلکہ مغض لوگوں کی خدمت اور ایک دینی ضرورت سمجھتے ہوئے یہ کام اپنائے ۔ ﴾
- ﴿ ہمسہ وقت اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھے اور زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے ۔ ﴾
- ﴿ صبح و شام کے مسنون اذکار اور مختلف اوقات کی نبوی دعاءوں میں ہر گز سستی نہ کرے ۔ ﴾
- ﴿ اپنی ذاتی زندگی تقویٰ و پر ہیز گاری کا عملی نمونہ بنائے اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے ۔ ﴾
- ﴿ ہر وقت باضور ہنئے کی کوشش کرے ۔ ﴾
- ﴿ معانٌ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ (اطاعت و عبادت، ذکر و اذکار اور یادِ الٰہی کے ذریعے) جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی شیطان سے دور ہوتا جائے گا اور اتنی ہی زیادہ اسے شیطان کے خلاف قوت ملتی جائے گی لیکن اگر وہ اپنے نفس پر ہی کششوں نہ کر سکے اور اپنے اوپر مقرر کردہ شیطان کو ہی قابو میں نہ کر سکے تو دوسرے انسانوں کے جنات اور شیاطین کو ہر گز قابو میں نہیں لاسکے گا ۔ ﴾
- ﴿ علاج کے دوران مریض کو بھی مسنون اذکار و دنیا کاف پڑھنے کی تلقین کرے اور اس سلسلے میں مریض کی استطاعت کو بھی پیش نظر کر کے یعنی جتنے اذکار بآسانی مریض پڑھ سکتا ہے اتنے ہی اسے بتائے، اس پر اتنا بوجھتہ ڈالے کہ وہ دنیا کاف کی پابندی ہی نہ کر سکے ۔ ﴾
- ﴿ ہر مریض کو نیک بننے، عقیدہ توحید اپنانے، هشک سے بچنے اور نماز، رورہ وغیرہ جیسی تمام عبادات کی پابندی کرنے کی تلقین کرے ۔ ﴾
- ﴿ دوران علاج اگر مریض کا کوئی عیب ظاہر ہو تو اس کی پرده پوشی کرے ۔ ﴾
- ﴿ مریض کو تلی دے اور اسے مایوس ہونے سے روکے ۔ ﴾
- ﴿ علاج معانٌ کا امام شروع کرنے سے پہلے شادی کرائے ۔ ﴾
- ﴿ عورتوں کا علاج کرنے سے پہلے انہیں پرده کرائے اور ان کے محروم شہزادوں کی موجودگی میں ہی ان کا علاج کرے ۔ ﴾
- ﴿ اگر اپنے نفس پر قابو پانے کی طاقت نہ ہو تو پھر مردوں کا ہی علاج کرے ۔ ﴾

* معانچ پر یہ بھی لازم ہے کہ علاجِ معالج سے پہلے جنات و شیاطین کے متعلق کمل دینی معلومات حاصل کرے۔ ان سے بچاؤ، حفاظتی تدابیر اور ان کے علاج کے شرعی طریقے سمجھے اور پھر پابندی سے ان پر عمل کرے۔

مریض کے لیے ضروری ہدایات

اہل علم کا کہنا ہے کہ معانچ کے ساتھ ساتھ مریض میں بھی چند صفات ایسی ہوئی چاہیے جن کی بدولت وہ گمراہ ہونے سے فجی جانے اور شرعی طریقے کے مطابق اپنا علاج کر سکے۔ اس حوالے سے چند امور بیش خدمت ہیں:

* اولاً مریض کو پختہ طور پر یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ بیماری سے شفافر اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مریضی ہوتی ہے کیونکہ شفادینے والی حقیقتی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اس لیے وہ شب و روز اللہ تعالیٰ سے ہی شفاقتطلب کرے۔

* جادو جنات کو بھگانے والے مسنون اذکار و ظائف کی پابندی کرے۔

* اپنے بدن سے لے کر گھر، دفتر اور دکان تک ہر جگہ کو خلافِ شرع اشیاء پاک رکھے۔

* علاج کرانے کے لیے کسی نیک، متقنی اور پرہیزگار معانچ کو تلاش کرے، جو نماز روزہ اور دیگر عبادات کا پابند ہو اور مسنون اذکار و ظائف کے ذریعے ہی دم کرے۔ اگر کوئی معانچ بے نماز یا شرعی حدود کو تجاوز کرنے والا ہو یا خلافِ شرع امور انجام دینے والا ہو (جیسے بے پرده عورتوں سے اختلاط، گالی گلوچ، موسيقی سننا، اللہ کے نافرمانوں سے دوستی وغیرہ) یا پر اسرار کام کرتا ہو (مثلاً پتلوں میں سوئیاں مارنا، کسی کیل وغیرہ پر دم کر کے گھر میں لگانے کا باتانا یا کوئی کپڑا طلب کرنا وغیرہ) تو ایسے معانچ کے پاس نہیں جانا چاہیے۔

* اگر علاج کے باوجود دشمنی مل رہی ہو تو صبر سے کام لے کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور انہیں بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔^(۱) اور یہ بھی ذہن نشین رکھے کہ بیماری کی حالت میں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ نیز اللہ کی رحمت سے مايوں ہرگز نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا والتجاء اور شرعی طریقہ علاج کو جاری رکھے۔

اگر کوئی ماہر اور متقنی معانچ نہ ملے؟

اگر تلاش کے باوجود کوئی پرہیزگار اور ماہر معانچ نہیں مل سکے تو مریض کو چاہیے کہ وہ کسی جادوگر، کاہن یا نامنہاد عامل کے پاس جا کر کفر و شرک میں مبتلا ہونے کے بجائے صبر سے کام لے، اسی میں خیر اور اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ عطاء بن ابی رباح رض بیان کرتے ہیں کہ

”حضرت ابن عباس رض نے مجھے کہا، میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں ضرور۔“

(۱) آل عمران: آیت ۱۴۶، [الزمر: آیت ۱۰]

انہوں نے کہا یہ سیاہ رنگ کی عورت جو بھی عليه السلام کے پاس آئی ہے اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول! مجھ پر مرگی کا حملہ ہوتا ہے اور میرے کپڑے جسم سے دور ہو جاتے ہیں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ﴿إِنْ شَيْءَتْ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شَيْءَتْ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ﴾ ”اگر تو چاہے تو (اس بیماری پر) صبر کرو اور تیرے لیے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیری عافیت کی دعا ملکتا ہوں۔“ اس نے جواب میں کہا، میں صبر کرتی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، دعا کیجئے کہ میرے کپڑے نہ اتریں۔ چنانچہ آپ عليه السلام نے اس کے لیے دعا فرمادی۔^(۱)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح کے مطابق اس عورت کا نام ام زفر تھا اور اسے دورہ پڑنے کا سبب جن کا حملہ تھا۔^(۲) امام ابن عبد البر^(۳) اور امام ابن اثیر^(۴) نے بھی ام زفر کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے نقش فرمایا ہے کہ یہی وہ عورت تھی جس پر جن حملہ آور ہوتا تھا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس سیاہ رنگ کی عورت کا مرگی کا دورہ خبیث ارواح کی وجہ سے ہو۔^(۵)

معلوم ہوا کہ جن زدہ عورت نے معانعِ اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں علاج پر صبر کو ترجیح دے کر جنت پانے کی کوشش کی تو آج بھی ہمیں ہر تکلیف و آزمائش میں کسی قسم کے گناہ میں بستا ہونے کے بجائے صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یقیناً معانعِ نہ ملنے کی صورت میں صبر کرنے والا جنت کا مستحق ٹھہرے گا (ان شاء اللہ)۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جتنا کام مریض خود کر سکتا ہے اسے اتنا ضرور کرنا چاہیے یعنی وہ اذکار اور مسنون دعائیں جن سے جادوجنات سے بچا جاسکتا ہے (جیسا کہ بچھلے اور اس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے) مریض ان کی پابندی کرے اور جادو سے بچاؤ کی دیگر تدبیر اپنانے کی بھی بھرپور کوشش کرے۔

جادو کی علامات

جادو کے علاج سے پہلے جادو کی تشخیص کرنا ضروری ہے کہ آیا مریض کو جادو کا اثر ہے بھی یا نہیں؟ تو اس کے لیے اہل علم نے جادو کی کچھ علامات ذکر فرمائی ہیں، جن کا مختصر بیان حسب ذیل ہے:

✿ اچانک عبادات سے دل اچات ہو جانا، کسی نیکی کے کام کی رغبت نہ رہنا۔

✿ اولاً اور والدین، بھائیوں، دوستوں، شریکوں یا میاں بیوی میں محبت کا اچانک نفرت میں بدل جانا، شکوک و شبہات کا پیدا ہو جانا، کسی دوسرے کا کوئی عذر قبول نہ کرنا، چھوٹے سے اختلاف کو پہاڑ تصور کرنا، خادند کا

(۱) [بخاری (۵۶۵۲) کتاب المرضی: باب فضل من بصرع من الريح] مسلم (۲۵۷۶) احمد (۳۲۴۰)

(۲) [فتح الباری (۱۱۵۱۰)]

(۳) [الاستيعاب فی معرفة الصالح] (۴۵۳/۴)

(۴) [زاد المعاد فی معرفة الصحابة (۲۳۲/۶)]

(۵) [زاد العباد (۱۸۱/۳)]

بیوی کو اور بیوی کا خاوند کو بد صورت دکھائی دینا، جہاں ایک ساتھی بیٹھا ہواں جگہ کو ناپسند کرنا۔

* شوہر یا بیوی میں ہم بستری کی خواہش ختم ہو جانا۔

* اچانک بیوی سے محبت کا حادثہ بڑھ جانا، اس کے بغیر بے صبری اور اس کی اندری فرمانبرداری شروع کر دینا۔

* کسی خاص جگہ پر بے چینی، خوف یا گھبراہٹ محسوس ہونے لگنا اور وہاں سے کہیں اور جانے پر اطمینان محسوس ہونا۔

* ہمیشہ سستی و کاملی میں بنتا رہنا، خلوت پسندی اور خاموشی کو ترجیح دینا اور محفوظوں سے ہمیشہ دور رہنا۔

* جسم میں کسی جگہ ہمیشہ درد رہنا لیکن طبی معافانے کے باوجود اس کا کوئی سبب سمجھنا آتا۔

* سوتے جا گئے ڈراؤنی آوازیں سنائی دینا، خوفناک خواب، کثرت و ساویں اور شکوک و شبہات میں بنتا ہو جانا۔

* بیہاں یہ یاد رہے کہ یہ علامات اغلبًا جادو کے مریض میں ہی پائی جاتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ

ان علامات والامریض سو فیصد جادو زدہ ہی ہو کیونکہ علامات کی حیثیت مغض قرائیں یا اشاروں کی ہوتی ہے جو کسی بھی

چیز تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ نیز بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جادو زدہ شخص میں جن زدہ کی

علامات پائی جاتی ہیں اور بعض اوقات جن زدہ میں جادو زدہ کی، اس لیے معانج کو چاہیے کہ جن زدہ کی علامات بھی

پیش نظر رکھے (جن کا بیان آئندہ عنوان ”جنت اور آسیب زدگی کا علاج“ کے تحت آئے گا)۔

جادو کے علاج کے مختلف طریقے

اولاً یہ واضح رہے کہ اگر انسان جادو سے بچاؤ کی احتیاطی تداہیر پر عمل کرتا رہے اور روزمرہ مسنون اذکار و نظائر کی پابندی کرے تو بالعموم جادو جنات کے حملوں سے محفوظ ہی رہتا ہے لیکن اگر کبھی ان تداہیر میں کوتا ہی کے باعث جادو کا حملہ ہو جائے تو اس کے علاج کے مختلف طریقے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔

۱ جادو کی تلاش اور اس کا اخلاف

جادو کا سب سے بڑا فرع بخش علاج یہ ہے کہ جادو زدینا یا پہاڑ وغیرہ پر جہاں کہیں بھی چھپایا گیا ہو، اس کا پتہ لگایا جائے، اگر وہ مل جائے تو اسے ضائع کر دیا جائے تو جادو ختم ہو جائے گا۔ شیخ این باز خالش نے یہی فرمایا ہے۔ (۱)

نبی کریم ﷺ پر بھی جب جادو ہوا تھا تو آپ ﷺ اس وقت تک اس کی تکلیف میں بنتا رہے تھے جب تک جادو کو زروان کے کوئی سے نکال کر ضائع نہیں کر دیا گیا۔ آپ ﷺ جادوی اشیاء (جن میں گریبیں لگی ہوئی تھیں) پر معاوضہ تین سورتوں (الفلق، الناس) کی ایک ایک آیت پڑھ کر پھوٹنے اور گرہ کھلتی جاتی اور جیسے گرہ کھلتی آپ کو اپنی طبیعت میں بھی خفت اور فرق محسوس ہوتا۔ جادوی اثر سے آزاد ہونے کے بعد آپ ﷺ نے ان جادوی اشیاء کو زمین میں دفن کر دیا۔ (۲)

(۱) [جادو نوئی کا علاج (ص: ۲۴)]

(۲) [دیکھئی: بخاری (۵۷۶۲) کتاب الطب: باب السحر، الصحیحة (۲۷۶۱) طبرانی کبیر (۲۰۱۵)]

لہذا اگر جادو کی جگہ کا علم ہو جائے تو ان اشیاء پر سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر پھونکنا چاہیے اور پھر انہیں کہیں دور جا کر دفننا چاہیے یا جلا دینا چاہیے یا پھر پانی میں بہاد دینا چاہیے۔ اور اگر یہ سورتیں یاد نہ ہوں تو پھر صرف تعود پڑھ کر ہی ان اشیاء کو تلف کر دینا چاہیے۔

۲۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو کی جگہ متعلق نبی کریم ﷺ کو توبہ کو تبدیل یعنی تادیگی کیا تھا، آج چونکہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے تو پھر جادو کی جگہ کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آج بھی دو طریقوں سے جادو کی جگہ کا پتہ چل سکتا ہے:

۱۔ ایک یہ کہ اگر جادو کے مریض میں جن موجود ہو اور شرعی دم کے ذریعے اسے حاضر کر کے اس سے جادو کی جگہ دریافت کی جائے اور پھر وہ بتا دے کہ جادو فلاں جگہ چھپا یا ہوا ہے۔

۲۔ دوسرے یہ کہ مریض کو الہام بخواب کے ذریعے جادو کی جگہ بتا دی جائے، یا اسے گمان غالب کے ذریعے اس جگہ کا پتہ چل جائے، یا اسے جس جگہ پر جانے سے زیادہ تکلیف محسوس ہو وہاں جادو ٹلاش کر لیا جائے۔ بالفاظ دیگر جادو کی جگہ کا آج بھی پتہ چل سکتا ہے باشرطک معاجم اور مریض مخلص اور شریعت کے پابند ہوں۔

۲. دم درود

جادو کے علاج کا دوسرا اہم اور مفید طریقہ یہ ہے کہ شرعی دم کے ذریعے جادو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ حافظ ابن قیم جملت نے بھی اس طریقہ علاج کو بہترین قرار دیا ہے۔^(۱) جبکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق (جادو سے بچاؤ کے حوالے سے) یہی ذکر کردہ دعائیں اور اذکار (جادو واقع ہو جانے کے بعد اس کے ازالے کے لیے بھی اہم تھیا ہیں) البتہ کثرت اور تضرع کے ساتھ پڑھے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ضرر اور پریشانی کو دور کر دے۔^(۲) شیخ ابن شیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو یا دوسرے امراض میں مبتلا شخص پر قرآنی آیات یا مسنون دعاؤں کے ذریعے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی ﷺ سے بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے صحابہ پر دم کیا کرتے تھے۔^(۳) شیخ سعید بن علی بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جادو کی جگہ کا علم نہ ہو سکے تو پھر باقی تھی چیز رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اتعاب کی جائے، قرآن کریم اور مسنون دعاؤں کے ساتھ دم کیا جائے۔^(۴) چند مفید اور اہم دم جن کے ذریعے جادو کا علاج کرنا چاہیے، حرب ذیل ہیں:

○ سورۃ الفاتحہ:

حضرت خارجہ بن صلت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد

(۱) الطہ التبوی لابن القیم (ص: ۲۶۹)

(۲) [جادو نوی کا علاج (اردو ترجمہ "رسالہ فی حکم السحر والنكھانہ") (ص: ۲۰-۲۱)]

(۳) [محسوغ فتاویٰ ابن عثیمین (۱۳۹۱)] (۴) [افہ الدعوۃ فی صحيح الامام البخاری (۸۳/۴)]

عرب کے ایک محلے میں پہنچا۔ اس محلے کے لوگوں نے کہا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اس شخص (یعنی محمد ﷺ) سے خیر و برکت کے ساتھ آئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا دم ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک آسیب زدہ شخص زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ چنانچہ وہ اس شخص کو لے کر آئے جو زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ (خارج کے چچا کہتے ہیں کہ) ﴿فَقَرَأَتُ عَلَيْهِ بِقَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوًّا وَعَشِيًّا أَجْمَعُ مُزَاجِيْنِ ثُمَّ أَتَفْلُّ قَالَ: فَكَانَمَا أُنْشِطَ مِنْ عَقَالٍ﴾ ”میں نے تین دن اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، میں اپنے تھوک کو اٹھا کر کے اس پر تھوک تارہا گویا کہ وہ پہلے بندھا ہوا تھا جس سے اس کو آزادی حاصل ہو گئی۔“ ان لوگوں نے مجھے مزدوری دی۔ میں نے (لینے سے) انکار کر دیا جب تک کہ میں نبی ﷺ سے دریافت نہ کر لوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، تو اسے اپنے مصرف میں لا، مجھے اپنی زندگی کی قسم! کچھ وہ لوگ ہیں جو غلط دم کر کے کھاتے ہیں لیکن تو نے صحیح دم کر کے کھایا ہے۔^(۱)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ جادو کے مریض کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا مفید ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے خود اس کی تصدیق فرمائی ہے۔

کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بذریعہ قرآن دم کر کے اجرت بھی لی جاسکتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اسی حوالے سے نبی کریم ﷺ کے یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ ﴿إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِكْتَابُ اللَّهِ﴾ ”اجرت کی مستحق اشیاء میں سب سے زیادہ حقدار اللہ کی کتاب ہے۔“^(۲) لیکن اس جواز کا مطلب یہ بھی نہیں کہ غریب عوام کو لوٹا شروع کر دیا جائے اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بھاری قوم وصول کرنی شروع کر دی جائیں۔ اعتدال کو بلوظ رکھنا بہر صورت ضروری ہے۔

○ سورۃ الفلق، سورۃ الناس:

جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ پر ہونے والے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لئے معوذ تین سورتیں نازل کی گئیں۔ چنانچہ اس میں یہ لفظ ہیں کہ ﴿فَاتَّاهُ جِبْرِيلُ فَنَزَّلَ عَلَيْهِ بِالْمُعْوذَتِينَ﴾ ”پھر حضرت جبریل ﷺ معوذ تین سورتیں لے کر آپ ﷺ کے پاس تشریف لائے (اور آپ سے کہا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے)۔“ پھر آپ ﷺ ان سورتوں کی ایک ایک آیت پڑھ کر پھونکتے جاتے اور جادو کی گردھ کھلتی جاتی اور یوں تمام گرہیں کھل گئیں اور آپ سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔^(۳)

(۱) اصحیح: صحيح ابو داود، ابو داود (۳۹۰۱) کتاب الطب: باب کیف الرفق، مشکاة (۲۹۸۶)]

(۲) بخاری (۵۷۳۷)، مسلم (۲۲۰۱) کتاب الطب: باب الشرط في الرقة بقطعی من الغم، مسلم

(۳) اصحیح: السلسلة الصحيحة (۲۷۶۱) طبرانی کبیر (۱۰۱۵) حاکم (۳۶۰۴)]

نواب صدیق حسن خان را فرماتے ہیں کہ ”جادو کو ختم کرنے میں معذتین سورتیں بہت گہرا اثر رکھتی ہیں۔ لہذا جو کوئی بھی شب و روز ہمیشہ ان کی تلاوت کرتا رہے گا اسے جادو نصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر حمزہ شخص انہیں پڑھے گا تو ان شاء اللہ اس سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔“^(۱)

○ جبرئیل عليه السلام کا دم:

یعنی وہ دم جس کے ذریعے حضرت جبریل عليه السلام نبی کریم ﷺ کو دم کیا کرتے تھے اور وہ یہ ہے:

﴿إِنَّمَا اللَّهُ أَرْزَقَنِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِنُكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، إِنَّمَا يَسْفِيَنِي بِسُحْمِ اللَّهِ أَرْزَقَنِي﴾ ”اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہر فسی یا ہر حسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفاعت افرمائے، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔“^(۲)

○ ہر بیماری سے شفا کا دم:

یعنی وہ دم جس کے ذریعے نبی کریم ﷺ ہر بیمار ہونے والے اپنے ساتھی دم کیا کرتے تھے اور وہ یہ ہے:

﴿أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِ لَا شَفَاعَ لِأَلَا شَفَاُوكَ شَفَاعَ لَا يُغَادِرُ سَقْمًا﴾ ”اے لوگوں کے پروردگار! بیماری کو دور کر دے، شفاعت افرما، تو ہی شفاعت افرمانے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفائنیں ہے، ایسی شفاعت افرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔“^(۳)

○ مزید چند دم:

1- آیت الکرسی۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ لَا تَأْخُذْنَا سَيْنَةً وَ لَا تُؤْمِنَّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ لَا يَأْذِنُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يُحِيطُنَّ بِشَيْءٍ وَ مَنْ عَلِمَهُ إِلَّا مَا شَاءَ وَ سَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لَا يُؤْدِه حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

2- سورۃ الاغلام۔

﴿فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿٤﴾﴾

3- سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱ تا ۵۔

﴿الْهَرَقَ ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ يَرِبُّ فِيهِ هُنَّ لِلْمُتَقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ

(۱) [الدین الحالص (۳۲۰/۲)]

(۲) [مسلم (۲۱۸۶) کتاب السلام : باب الطب والمرض والرقى ،ترمذی (۹۷۲) ابن ماجہ (۳۵۲۳)]

(۳) [مسلم (۲۱۹۱) کتاب السلام : باب استحباب رقة المريض ،بخاری (۵۷۴۳) کتاب الطب]

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَارَزَ قَنْهُمْ يُنْفِقُونَ^(١) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ^(٢) اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^(٣)

- 4- سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102۔

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَشْلُو الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَ الشَّيْطَانُ كَفَرَ وَإِعْلَمَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزَلَ عَلَى الْمُلَكَيْنَ بِتَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا أَنْجَنَ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَهْ بَيْنَ الْمُرِءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَادِنَ اللَّهَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُبُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَتَنِ اشْتَرَبْهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ شَوَّلَيْسَ مَا شَرَّوْا إِلَيْهِ أَنْفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ^(٤)﴾

- 5- سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164۔

﴿وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ^(٥) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ فِي النَّهَارِ وَالْفُلْكِ الْبَيْنِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أُنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَائِبٍ وَتَصْرِيفُ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَعَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَبْتَلِقُوهُمْ يَعْقِلُونَ^(٦)﴾

- 6- سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 تا 286۔

﴿يَلْهُو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدِلْ وَمَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفِيْهُ مُحَايِيْكُمْ بِهِ وَاللَّهُ فِيْغِيْرِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعْلِمُ بِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(٧) أَمَّنِ الرَّسُولُ مِمَّا أُنْزَلَ إِلَيْهِ وَمِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَقْنَاعٍ بِاللَّهِ وَمَلِكِهِ وَكُنْتِهِ وَرَسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِمَّنْ رَسُولُهُ وَقَالُوا وَعَلَيْهِمَا أَكْتَسَبْتَ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُخْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرَارًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُخْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا إِلَيْهِ وَأَغْفِرْ لَنَا وَإِنْ حَمَنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ^(٨)﴾

- 7- سورہ آل عمران کی آیت نمبر 194 تا 196۔

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلِكُ كُلُّهُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَاتِلُهَا بِالْفِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(٩) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِأَيْنِتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ^(١٠)﴾

- 8- سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 تا 56۔

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
يُغْشِي الَّيْلَ التَّهَارَ يَظْلِمُهُ حَتَّى شَيْئًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُوْمُ مُسْعَرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَّا هُوَ خَلَقٌ
وَالْأَمْرٌ تَبِرُّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَيْبِينَ ﴿١﴾ إِذَا دَعَوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿٢﴾ وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ كَحْوًا وَكَلْمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾*

9- سورہ اعراف کی آیت نمبر 117-122۔

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَّ الَّقِيَّ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَا فِي كُونٍ ﴿٣﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤﴾ فَغَلِبُوا هُنَّا لِكَ وَأَنْقَلَبُوا أَصْغَرِينَ ﴿٥﴾ وَلِلَّقِيَ السَّحْرُّ سَجِيدِينَ ﴿٦﴾ قَالُوا أَمَّا
يَرِبِّ الْعَلَيْبِينَ ﴿٧﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَرُونَ ﴿٨﴾﴾

10- سورہ یوس کی آیت نمبر 81-82۔

﴿فَلَمَّا آتَقْوَا قَالَ مُوسَى مَا جِئْنِيَ السَّبِيلَ إِنَّ اللَّهَ سَيِّدُ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضْلِلُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٩﴾ وَيَحِيقُ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرُمُونَ ﴿١٠﴾﴾

11- سورہ طہ کی آیت نمبر 69۔

﴿وَالْقِيَّ مَا فِي مَيْنَكَ تَنْقَفُ مَا صَنَعْتُ وَإِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سُحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنْتَ ﴾﴾

12- سورہ مومون کی آخری 4 آیات۔

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْشًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾ فَتَعْلَمَ اللَّهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ ﴿١٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى لَا يُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حَسَابُهُ عِنْدَ
رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفَّارُونَ ﴿١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَازْكُمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٨﴾﴾

13- سورہ الصافات کی آیت نمبر 1-10۔

﴿وَالصَّفَقُ صَفَقًا ﴿١﴾ فَالرِّجْرِيتُ رَجْرِيًّا ﴿٢﴾ فَالثَّلِيلِيَّتُ ذَلِيلًا ﴿٣﴾ إِنَّهُمْ لَوْا حِدْنًا ﴿٤﴾ رَبُّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَسَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَرَيْنَا النَّاسَ إِذْ أَنْزَلْنَا بَيْنَ أَنْكَوَاتِ
هُنَّا وَحْفَاظَاهُنَّ كُلُّ شَيْطَنٍ مَارِدًا ﴿٦﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمُتَلَأِ الْأَغْلِيَ وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٧﴾
دُخْرًا وَأَوْلَاهُمْ عَذَابٌ وَاصْبِرْ ﴿٨﴾ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْحَظْفَةَ فَأَشْبَعَهُ شَهَابَ ثَاقِبَ ﴿٩﴾﴾

14- سورہ احتاف کی آیت نمبر 29-32۔

﴿وَإِذْ صَرَرْ فَنَّا إِلَيْكَ نَفَرَ أَئِنَّ الْجِنَّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصُتُوا فَلَمَّا
قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُشْنِدِيَّنَ ﴿١﴾ قَالُوا يَقُولُونَا إِنَّا سَمِعْنَا كَيْتَبَأَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا﴾

الْيَقِينُ مِنَ الْحَقِّ إِلَيْهِ يَنْهَا حَبْرٌ وَكَوْثَرٌ

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣١﴾ يَقُولُ مَنَّا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهُ وَأَمْنُوا بِهِ يَعْفُرُ
لَكُمْ مَنْ ذُو بَكْمٍ وَمُبْحَرٌ كُمٌّ مِنْ عَذَابِ الرَّبِّ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَيْسَ لَهُ مَنْ دُونِهِ أَوْلَيْهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٣﴾

15- سورة الرحمن کی آیت نمبر 33 تا 36۔

﴿يَمْعَشُ الْجِنُونَ وَالْإِنْسَانُ إِنْ أُسْتَطِعُهُمْ أَنْ تَنْفَذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفَذُوا
لَا تَنْفَذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنٍ ﴿٣٤﴾ فَبَأْتِ الْأَءْرَقَ كُمَّا ثَبَّتِنَ ﴿٣٥﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَّاظٌ مِنْ تَارِقٍ وَنَحَّاسٌ
فَلَا تَنْتَهِزُنَ ﴿٣٦﴾ فَبَأْتِ الْأَءْرَقَ كُمَّا ثَبَّتِنَ ﴿٣٧﴾﴾

16- سورة الحشر کی آیت نمبر 21 تا 24۔

﴿لَوْا نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَنَّلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاسِعًا مَنْصِدِعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَرَلَكَ الْأَمْغَالُ
نَضَرَ بِهَا إِلَيْنَا إِنْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَمُ الْبُوِّيْمُ الْمَهَيْمُونُ
الْعَزِيزُ الْجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْخَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْحَمَاقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْمُسْمَى يُسْتَعِيْلُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾

17- سورة الجن کی آیت نمبر 1 تا 9۔

﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَسْتَمِعُ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
فَأَمْتَأْبِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعْلَمُ جَدْرَنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ سَيِّئَنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَّنَا أَنَّنَّنَ تَقُولُ إِلَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ
كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسَانِ يَعْوَذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَرَأَوْهُمْ رَهْقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنَّوْا كَمَا ظَنَّنُتُمْ
أَنَّنَّنَ يَبْعَثُ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا مَسَنَّا السَّمَاءَ وَقَوْجَدَنَّا مُلْكَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَّا ﴿٨﴾ وَأَنَّا
كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهُمَا مَقَاعِدَ لِلشَّيْعَ ﴿٩﴾ فَمَنْ يَسْتَعِيْلُ إِلَانِيْجَدَلَهُ شَهَابَارَصَداً ﴿١٠﴾﴾

○ ایک ضروری وضاحت:

اوپر ذکر کردہ وظائف میں سے کچھ کے متعلق تو صریح نصوص موجود ہیں جیسا کہ پیچے یا آئندہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ وظائف ایسے ہیں جن کے متعلق صریح نصوص تو موجود نہیں البتہ وہ عمومی دلائل کے تحت آجاتے ہیں۔ اس کے چند دلائل حسب ذیل ہیں:

(1) ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الاسراء]:

۸۲] ”ہم جو قرآن نازل کر رہے ہیں یہ مونوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔“

اہل علم نے قرآن کے شفا ہونے کے دو مفہوم ذکر فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں معنوی شفا ہے یعنی یہ شرک، نفاق اور دیگر فرق و فنور سے شفا کا ذریعہ ہے اور دوسرے یہ کہ قرآن معنوی اور حسی دونوں طرح شفا کا ذریعہ ہے یعنی جہاں اس پر عمل سے دلوں کا زانگ، کینہ، حسد اور شرک کی آلاش کا خاتمه ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ دم کرنے سے جسمانی امراض بھی دور ہوتے ہیں۔ امام قرطبی رض نے فرمایا ہے کہ نفس جس بات پر مطمئن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم قلمی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض سے بھی شفا کا موجب ہے۔ (۱) معلوم ہوا کہ مکمل قرآن شفا ہے۔ لہذا اگر قرآن کی کسی بھی آیت یا سورت کے ذریعے دم کیا جائے تو اس میں کوئی مضافات نہیں۔

مزید اس موقف کی تائید درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

(2) ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت عائشہ رض کے پاس تشریف لائے تو وہ کسی عورت کا علاج معاملج کر رہی تھیں یا اسے دم درود کر رہی تھیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا ﴿عَالِجِهَا بِكِتَابِ اللَّهِ﴾ ”کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے ساتھ اس کا علاج کرو۔“ (۲)

شیخ البانی رض نے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ دم کیا جاسکتا ہے۔ (۳)

(3) امام بخاری رض نے صحیح بخاری میں یہ عنوان ((بَابُ الرُّقْبَىٰ بِالْقُرْآنِ)) قائم کر کے بھی اسی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ (۴)

(4) یہاں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ہر آیت یا سورت کے ساتھ دم کرنے کے لیے خاص دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ نبی ﷺ نے فلاں بیماری کے لیے فلاں آیت یا سورت پڑھ کے دم کیا وغیرہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دم کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ایک عام قاعدة ذکر فرمادیا ہے، اگر اسے ذہن نشین رکھا جائے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول ! ہم دو رجائبیت میں دم کیا کرتے تھے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا ﴿أَعْرِضُوا عَلَىٰ رُفَاقَكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّفِيقَيْهِ مَا لَمْ تَكُنْ شَرِكَاهُ﴾ ”مجھ پر اپنے دم پیش کرو اور کوئی بھی دم درست ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔“ (۵)

(۱) [تفسیر قرطبی (تحت سورۃ الاسراء: آیت ۸۲)]

(۲) [صحیح : السلسلة الصحيحة (۱۹۳۱) ابن حبان (۱۴۱۹)]

(۳) [السلسلة الصحيحة (تحت الحديث: (۱۹۳۱)، (۰۴۳۰۱۴)]

(۴) [بخاری : کتاب الطب (قبل الحديث: (۵۷۳۵)]

(۵) [مسلم (۲۲۰) کتاب السلام : باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مُبَاوِلٰی تَعْقِيْتٌ اور اس کا ماحاج

معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے علاوہ دور جاہلیت کا دم بھی کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس میں شرک نہ پایا جائے۔
الہذا قرآنی آیات کے ساتھ دم کرنا تو بالاوی جائز و درست ہے۔

○ دم سے متعلق بعض اہم امور:

اہل علم نے دم کے حوالے سے چند ضروری باتیں بیان فرمائی ہیں، بالاختصار ان کا بیان حسب ذیل ہے:

✿ دم اللہ تعالیٰ کے کلام، اسماء یا صفات پر مشتمل ہونا چاہیے۔

✿ دم عربی میں ہو یا ایسا ہو جس کا معنی و مفہوم سمجھ میں آسکتا ہو۔

✿ یہ اعتقاد نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دم بذات خود فاائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ اعتقاد ہو گا تو یہ شرک ہے، الہذا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ دم بعض شفا کا ایک سبب ہے۔

✿ دم کرنے والا جادوگر یا کاہن نہ ہو۔

✿ دم قبرستان یا بیت الخلاء وغیرہ میں نہ کیا جائے۔

✿ کسی ناپاک حالت مثلاً حالت حیض، حالت جنابت یا برہنہ حالت کو دم کے لیے خاص نہ کیا جائے۔

✿ دم میں کوئی حرام بات، لعنت لامست یا گالی گلوچ وغیرہ کے الفاظ نہ ہوں۔

○ دم کے ساتھ پہونچ مارنا:

یہاں یہوضاحت کردیا گئی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دم کر کے پانی پر یا کسی شخص پر پھونک مارنے میں کوئی حرج نہیں خواہ اس میں تھوک کے کچھ ذرات ہی کیوں نہ ہوں۔ امام بخاری رض نے صحیح بخاری میں ایک عنوان ان الفاظ میں قائم کیا ہے کہ ((بَابُ النَّفْثَةِ فِي الرُّفِيْقَةِ)) ”یعنی دعا پڑھ کر (مریض پر یا پانی میں) پھونک مارنا اس طرح کہ مدد سے ذرا ساتھوک بھی نکلے۔“

اس عنوان کے تحت اولاً توهہ حدیث نقل فرمائی ہے جس میں ہے کہ براخوب شیطان کی طرف سے ہے الہذا جو بھی ایسا خواب دیکھے ﴿فَلَيْسَنْفَثْ جِينَ يَسْتَقِظُ ثَلَاثَ مَرَأَتٍ﴾ وہ بیدار ہوتے ہی تین مرتبہ (باہمیں جانب) پھونکے۔ ”بھروسہ روایت نقل فرمائی ہے جس میں ہے کہ نبی ﷺ جب بستر پر لیٹتے تھے تو سورہ اخلاص اور معوذ تین سورتیں پڑھ کر ﴿نَفَثَ فِي كَفِيْهِ﴾ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے تھے، ”بھروسہ دونوں ہاتھ اپنے سارے جسم پر مل لیتے تھے۔ اس کے بعد تیسری وہ روایت نقل فرمائی ہے جس میں ہے کہ صالحہ سفر پر تھے اور راستے میں کسی قبیلے کے سردار کو کوئی موزی جانور کاٹ گیا تو ایک صالحی نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اسے شفا ہو گئی، اس میں یہ لفظ ہیں کہ ﴿فَجَعَلَ يَتَفَلَّ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ ...﴾ ”وَصَالِحٌ (زَيْنٌ پر) تھوکتے جاتے اور سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے۔“^(۱)

(۱) [بخاری (۵۷۴۷)، مسلم (۵۷۴۸)، مسلم (۵۷۴۹)] کتاب الطب : باب النفث في الرفيقة

نفت پھونک کو کہتے ہیں جس میں تھوک تو نہ ہو^(۱) لیکن بلا قصد تھوک کے ذرات شامل ہو جائیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں^(۲) جبکہ تفل ایسی پھونک کو کہتے ہیں جس میں تھوک بھی شامل ہو۔^(۳) واضح رہنے کے نفت (پھونک) تفل (تھوک) سے کم تر ہے اور جب دم کے ساتھ تھوک کنا جائز ہے تو پھونک مارنا بالا ولی جائز ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر عسکر نے بھی یہی فرمایا ہے۔^(۴) علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ”یہچہ یہ بات ذکر کی جا سکی ہے کہ نفت (پھونکنا) تفل (تھوکنے) سے کم تر ہے، تو جب (دم کر کے) تھوکنا جائز ہے تو پھونکنا بالا ولی جائز ہے۔“^(۵)

نفت کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دم کر کے پھونکنا بالا جماع جائز ہے اور جب ہر صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے اہل علم نے اسے متحب قرار دیا ہے۔^(۶) حافظ ابن حجر عسکر نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ دم کر کے پھونکنے کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ اس رطوبت یا ہوا کے ذریعے تبرک حاصل کر لیا جائے جسے ذکر نہ چھوٹا ہے۔^(۷)

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ((وَفِي النَّفْثَةِ وَالتَّفْلِي إِسْتِعَاةً ...)) ”دم کر کے پھونکنے یا تھوکنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رطوبت، ہوا اور سانس کے ذریعے بھی مدد حاصل کر لی جائے جسے دم، ذکر اور دعا نے چھوڑا ہے۔ بلاشبہ دم کرنے والے کے دل اور مند سے دم خارج ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر سے تھوک، ہوا اور سانس جیسی کوئی چیز دم کے ساتھ جائے تو اس کی تاثیر مزید مکمل اور قوی ہو جاتی ہے۔“^(۸)

③ دم والے پانی سے مریض کو غسل کرانا

جادو کا ایک بہترین علاج یہ بھی ہے کہ اوپر ذکر کردہ تمام اذکار و طائف پڑھ کر پانی پر دم کیا جائے اور پھر کچھ پانی مریض کو پلا دیا جائے اور باقی پانی سے اسے غسل کرایا جائے۔ جادو کا اثر ختم ہونے تک یہ عمل جاری رکھا جائے۔ سابق مفتی عظیم سعودی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس علاج کی تائید کی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جادو کا ایک بہت ہی نفع بخش علاج یہ ہے کہ جادو زدہ شخص پیری کے سات بہرپتے لے اور انہیں پتھر وغیرہ سے باریک پیس کر کسی برتن میں رکھ دے اور پھر اس میں اتنا پانی ڈالے جو اس کے غسل کے لیے کافی ہو پھر اس پر آیت الکرسی (اور اوپر ذکر کردہ تقریباً تمام و طائف) پڑھنے کے بعد کچھ پانی پی لے اور باقی سے غسل کر لے۔ ان شاء اللہ

(۱) [معجم لغۃ الفقهاء (۹۲/۲)]

(۲) [فتح الباری (۳۷۱/۱۲)]

(۳) [النهایة لابن الأثیر (۵۱۴/۱)]

(۴) [فتح الباری (۲۱۰/۱۰)]

(۵) [عمدة القارى شرح بخاری (۳۷۶/۳)]

(۶) [شرح مسلم للنووی (۱۸۲/۱)]

(۷) [فتح الباری (۱۹۷/۱۰)]

(۸) [زاد الصعاد (۱۶۴/۴)]

پریشانی دور ہو جائے گی اور اگر یہ عمل کئی بار کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔^(۱)

④ مریض کے جسم سے جن نکالنا

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جادوگر جن صبح دیتا ہے جو مریض کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے تکلیف پہنچاتا ہے مثلاً مختلف قسم کے دورے پڑنا، ہاتھ پاؤں ٹیز ہے ہو جانا وغیرہ۔ اور اگر اس جن کو مریض کے جسم سے نکال دیا جائے تو مریض جادو سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم سے جن نکالنے کی کچھ تفصیل آئندہ عنوان ”جنات اور آسیب زدگی کا علاج“ کے تحت ملاحظہ فرمائیے۔

⑤ بعض حسی ادویہ کا استعمال

○ عجود کھجور کا استعمال

جیسا کہ پچھے حدیث ذکر کی گئی ہے کہ ”جس نے صبح کے وقت سات عجود کھجوریں کھالیں اس دن اسے نزہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔“^(۲)

”صبح کے وقت کھانے“ کے متعلق امام بنوی ہاشم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کے وقت کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے یہ کھجوریں کھائے۔^(۳) اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی ﷺ نے عجود کھجور کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ﴿أَوَّلَ الْبُكْرَةَ عَلَى رِيقِ شَفَاءٍ مِنْ كُلِّ سِخْرٍ أَوْ سُمٍ﴾ ”بغیر پانی کے نہار منہ کھجور کا استعمال ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا کا ذریعہ ہے۔“^(۴) نیز یہ واضح رہے کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ عجود کھجور کا جادو کے علاج کے لیے مفید ہونا شخص نبی کریم ﷺ کی (مدینہ کے لیے) دعائے برکت کا نتیجہ ہے، اس میں کھجور کی ذاتی کوئی خاصیت نہیں۔^(۵)

یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر عجود کھجور نہیں سکے تو مدینہ کی کوئی بھی کھجور کھا لینی چاہیے۔ کیونکہ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ ﴿مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ ، مِمَّا يَبْيَنَ لَا بَيْهَا ، حِينَ يُضِيقُ ، لَمْ يَضُرُهُ سُمٌ حَتَّى يُمْسِيَ﴾ ”جو شخص صبح کے وقت مدینہ کی (کسی بھی قسم کی) سات کھجوریں

(۱) [جادو تونی کا علاج (اردو ترجمہ ”رسالہ فی حکم السحر والکھانۃ لابن باز“)، (ص: ۲۴)]

(۲) [بخاری (۵۷۶۹) کتاب الطب: باب الدواء بالعجوة للسحر]

(۳) [شرح السنة للبنوی (۱۱/۳۲۵)]

(۴) [صحیح: صحیح الجامع الصغیر (۴۲۶۲) مسند احمد (۱۰۵۱۶) شیخ شعیب ارتلاؤ طنے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ الموسوعۃ الحدیثیۃ (۲۴۷۷۹)]

(۵) [فتح الباری (۱۰/۲۳۹)]

کھا لے تو شام تک اسے کوئی بھی زہر تکلیف نہیں دے گا۔^(۱) اور کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مدینہ کی کھجور میسر نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ شیخ عبد المحسن العبد فرماتے ہیں کہ اگرچہ حدیث میں (جادو سے بچاؤ کے لیے) عجوہ کھجور کا ذکر ہے لیکن اگر انسان کو کھجور میسر نہ ہو تو کوئی بھی کھجور استعمال کر سکتا ہے کیونکہ بعض روایات میں مطلق کھجور کھانے کا بھی ذکر ہے، لہذا ایسا کرنے سے ان شاء اللہ فائدے کی امید کی جاسکتی ہے۔^(۲)

○ کلونجی کا استعمال:

حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فِي الْحَجَةِ السُّودَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ ... ”سیاہ دانوں میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ ”سام“ سے مراد موت ہے اور ”سیاہ دانہ“ سے مراد کلونجی ہے۔^(۳) امام نووی رض فرماتے ہیں کہ سیاہ دانہ سے مراد کلونجی ہے یہی بات درست اور مشہور ہے جو جہور نے ذکر کیا ہے۔^(۴)

حضرت خالد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر نکلے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر رض بھی تھے، وہ راستے میں بیمار ہو گئے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے۔ ابن ابی عقیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے (کلونجی) استعمال کرو، اس کے پانچ یا سات دانے لے کر پیس لو اور پھر زبون کے تیل میں ملا کر (ناک کے) دونوں نھنوں میں قطرہ قطرہ کر کے پیکاو کیونکہ حضرت عائشہ رض سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا إِنَّ هَذِهِ الْحَجَةَ السُّودَاءَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنَ السَّامَ ”یکالے دانے (کلونجی) ہر بیماری کے لیے شفا ہیں سوائے موت کے۔^(۵)

معلوم ہوا کہ کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے اس لیے جادو کے علاج کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ جادو بھی ایک بیماری ہی ہے۔

○ شد کا استعمال:

قرآن کریم میں شد کے متعلق یہ ارشاد مذکور ہے کہ فِيهِ شِفَاءٌ لِلّئَاطِافِ [النحل : ۶۹] ”اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔“

(۱) [مسلم (۲۰۴۷) کتاب الاشربة: باب فضل ثمر المدينة، بخاری (۵۴۴۵) ابوداؤد (۲۸۷۶) نسائي في السنن الكبيرى (۶۷۱۲) حميدى (۷۰) بزار (۱۱۳۲) ابو يعلى (۷۱۷) ابو عوانة (۳۹۶/۵)]

(۲) [شرح سنن ابی داود (۸۱/۶)]

(۳) [بخاري (۵۶۸۸) کتاب الطب: باب الحجة السوداء، مسلم (۲۲۱۵) ترمذی (۲۰۴۱) ابن ماجہ (۳۴۴۷)]

(۴) [شرح مسلم للنووى (۳۱۴/۷)]

(۵) [بخاري (۵۶۸۷) کتاب الطب: باب الحجة السوداء، مسلم (۲۲۱۵)]

اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہد میں کئی بیماریوں کی شفاء ہے۔ طب نبوی کے موضوع پر لکھنے والے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر یہاں یہ کہا جاتا کہ ”فِيَوْشَفَاءِ لِلثَّابِسِ“ کہ اس میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی شفاء ہے۔ تو یہ ہر بیماری کی دوائے ہوتا لیکن اس کے بجائے یہاں یہ فرمایا ہے کہ ”فِيَوْشَفَاءِ لِلثَّابِسِ“ یعنی تمام خنڈی بیماریوں کے لیے موزوں ہے کیونکہ یہ گرم ہے اور کسی چیز کا علاج اس کی ضد سے ہی کیا جاتا ہے۔^(۱)

بہر حال یہ تو ایک رائے ہے علاوه ازیں نبی کریم ﷺ نے خود بھی شہد کے ذریعے اپنے صحابہ کا علاج کیا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کو پیٹ کی تکلیف تھی تو آپ نے اسے شہد پینے کے لیے کہا۔ بالآخر وہ شہد پینے سے ہی تدرست ہو گیا۔^(۲) اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ ”الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ: فِي شَرْطَةِ مَسْجِمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيْأَةِ بَنَارٍ وَأَنْهَى أُمْتَى عَنِ الْكَعَى“ ”شفاء تین چیزوں میں ہے: سینگی کے نشتر میں۔ یا شہد کے گھونٹ میں۔ یا آگ سے داغ دینے میں۔ اور میں اپنی امت کو داغ دینے سے منع کرتا ہوں۔^(۳)

معلوم ہوا کہ شہد میں شفاء ہے اور نبی کریم ﷺ نے خود بھی اس کے ساتھ اپنے مریض صحابہ کا علاج معالجہ کیا ہے لہذا جادو کے مرض سے نجات کے لیے بھی شہد استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اطماء کے مطابق موسم سرما میں اسے نیم گرم دودھ میں ملاکر اور موسم گرم میں اسے پانی میں ملاکر استعمال کرنا مفید ہے۔

○ سینگی لگوانا:

سینگی لگوانے میں بھی شفا ہے جیسا کہ اوپر حدیث بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”خَيْرٌ مَا تَدَأْوِيْتُمْ بِهِ الْجَاهَمَةُ“ ”جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں بہترین سینگی لگوانا ہے۔^(۴)

معلوم ہوا کہ سینگی لگوانا بہترین علاج ہے، اس لیے اگر جادو کے مریض کو جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد رہتا ہو تو کسی ماہر معانج سے اس جگہ پر سینگی (چھپنے) لگوانا کر فاسد خون نکلوانا بھی شفا کا باعث ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جادو کا اثر جسم کے کسی خاص حصے تک محدود ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو جادو کی وجہ

(۱) اتفسیر ابن کثیر (۵۷۱/۳)

(۲) بخاری (۵۶۱۴) کتاب الاشربة: باب شراب الحلوا و العسل

(۳) بخاری (۵۶۸۱) کتاب الطب: باب الشفاء فی ثلاثة

(۴) [صحیح: السلسلة الصحيحة (۱۰۵۳) مستدرک حاکم (۲۰۸۴)] امام حاکم نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

سے تکلیف والے حصے پر سینگی لگانا بہترین علاج ہے۔^(۱)

علاوه ازیں اگر کوئی سینگی لگانے والا میسر نہ ہو تو جادو کی وجہ سے تکلیف والی جگہ پر انسان خود مبھی کر سکتے ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن ابی العاص علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے جسم میں تکلیف کی شکایت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنا باتھ حجم کے اس حصے پر رکھو جس میں تم تکلیف محسوس کرتے ہو اور تین مرتبہ کہو ﴿بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ اور سات مرتبہ یہ کلمات کہو:

﴿أَعُوذُ بِعَزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَدُ دُرُّ﴾ "میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔" حضرت عثمان علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسی طرح دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعة فرمادی۔^(۲)

جادو سے بچاؤ یا علاج کی غرض سے تعویذ لٹکانا

(۱) فرمان نبوی ہے کہ ﴿مَنْ عَلِقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ﴾ "جس نے تعویذ لٹکایا یقیناً اس نے شرک کیا۔"^(۳)

(۲) ایک دوسرافرمان یوں ہے کہ ﴿إِنَّ الرُّقْبَى وَالثَّمَائِمَ وَالنَّوَلَةَ شَرُكٌ﴾ "(شرکیہ) منتر، تعویذ اور محبت پیدا کرنے کے عملیات شرک ہیں۔"^(۴)

(۳) ایک اور روایت میں حضرت ابو شیر انصاری علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ نے ایک قادر کے ذریعہ حکم بھجوایا کہ کسی اونٹ کے گلے میں تانت کا کوئی ہارنا رہنے دیا جائے یا آپ نے فرمایا کہ جہاں کسی اونٹ کے گلے میں کسی قسم کا ہارنا رہے اسے کاٹ دیا جائے۔^(۵)

کچھ اہل علم قرآنی تعویذ کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن درج ذیل وجود کی بنا پر اس سے بھی بچاہی بہتر ہے:

✿ تعویذ لٹکانے کی ممانعت عمومی ہے، اس میں کسی چیز کی خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں۔

✿ قرآنی تعویذ کل کو غیر قرآنی تعویذ پہنچ کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔

(۱) [الطب النبوى لابن القىيم (ص: ۱۲۵)]

(۲) [مسلم (۲۲۰۲) کتاب السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الأئم مع الدعاء، موطأ (۱۷۵۴) ابو داود (۳۸۹۱) ترمذى (۲۰۸۰) ابن ماجہ (۳۵۲۲) نسائی فی الکبری (۷۷۲۴) ابن حبان (۲۹۶۴)]

(۳) [صحیح: السلسلة الصحيحة (۴۹۲) صحيح انعام الصغير (۶۳۹۴) مسند احمد (۱۵۶/۴) شیعیب اردناد وطنے اس کی سند کو قوی کہا ہے۔] [الموسوعة الحدیثیة (۱۷۴۲۲)]

(۴) [صحیح: السلسلة الصحيحة (۳۲۱) صحيح الترغیب (۳۴۵۷) ابو داود (۳۸۸۲) حاکم (۲۴۱/۴)]

(۵) [بخاری (۳۰۰۵) مسلم: کتاب اللباس، مسند احمد (۲۱۶/۵) ابو داود (۲۵۰۲)]

* بیت الغلاء (مباشرت، احتلام و جنابت اور حیض و نفاس) وغیرہ میں بھی قرآنی آیات کے تعویذ ساتھی ہوں گے (جس سے یقیناً قرآن کی بے حرمتی ہوگی)۔

* قرآن سے شفاقت حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور وہ یہ کہ اسے پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، الہذا اس عمل سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔^(۱)

(ابراهیم نجحی رض) بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تعویذ کو ناپسند فرماتے تھے۔^(۲)
 (علامہ شمس الحق عظیم آبادی رض) انہوں نے لعل فرمایا ہے کہ قاضی ابو بکر العربی رض جامع ترمذی کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ”قرآن کو (تعویذ کی صورت میں) لٹکانا سنت طریقہ نہیں، بلکہ لٹکانے کی بجائے سنت یہ ہے کہ اسے پڑھ کر نصیحت حاصل کی جائے۔^(۳)

(شیخ ابن باز رض) قرآن کریم یا جائز دعاؤں کے تعویذ کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ تعویذ بھی دو وجہ سے ناجائز ہے۔ ایک یہ کہ ممانعت کی احادیث میں عموم ہے جو قرآن اور غیر قرآن دونوں طرح کے تعویذ کے لیے عام ہیں۔ دوسرے یہ کہ ذرائع شرک کی روم قہام (بھی ضروری ہے) کیونکہ اگر قرآنی تعویذ کی اجازت دے دی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس میں دوسرے تعویذ بھی مل جائیں گے اور یوں شرک کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ شرک اور کناہ کے تمام ذرائع کو وکنان شریعت کے اہم و قاعد میں سے ہے۔^(۴)

(شیخ ابن عثیمین رض) قرآنی تعویذ سے روکنے والوں کی بات ہی حق سے زیادہ قریب اور صحیح ہے کیونکہ ایسا کرنا نبی ﷺ سے ثابت نہیں، جبکہ ثابت یہ ہے کہ مریض پر (قرآنی آیات اور مسنون و ظائف کے ساتھ) دم کیا جائے۔ لیکن اگر آیات اور دعاؤں کو مریض کی گردن میں لٹکانا جائے، یا بازو پر باندھا جائے یا نکلنے کے نیچ رکھوایا جائے تو تمام کام ناجائز ہیں کیونکہ ان کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔^(۵)

(شیخ صالح الفوزان) صحیح رائے یہ ہے کہ قرآنی تعویذ لٹکانا بھی منع ہے۔ شیخ عبدالرحمٰن بن حسن اور ان سے پہلے شیخ سلیمان بن عبد اللہ نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔^(۶)

(۱) [اصنون الایمان فی ضوء الكتاب والسنة (ص: ۴۷)]

(۲) [مصنف ابن ابی شيبة (۲۳۹۳۲)، (۳۷۴/۷)]

(۳) [عون المعبود (۲۵۰/۱)]

(۴) [كتاب الدعوة (ص: ۲۰)]

(۵) [مجموع فتاویٰ ابن عثیمین (۱۴۲۹/۱)]

(۶) [إعانته المستفيد شرح كتاب التوحيد (۱۴۲۱)]

کے یہاں یہ بھی یاد رہے کہ قرآنی توعید لٹکانے کا مزید فقصان یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کو مصائب و تکالیف دور کرنے والا سمجھنے کی بجائے توعید کو سب کچھ سمجھ لیا جائے گا۔ یہاں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے یا طبی علاج معالجہ کرانے کی بجائے محض توعید پر ہی اعتماد کر لیا جائے گا حالانکہ شریعت میں یہاں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کیں مانگنے اور طبی علاج معالجہ کرانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تقدیر پر ایمان کی بجائے یہ یقین کر لیا جائے گا کہ توعید تقدیر بھی بدلتا ہے۔ یہ محض امکانات ہی نہیں بلکہ جہاں بھی توعید لٹکانے کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر سہی صورت حال ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور مسنون اذکار و نثار کی پابندی کرنے کی بجائے محض سکھنے کے نیچے توعید رکھ لینے یا اسے پانی میں گھول کر پی لینے یا اسے بازو پر باندھ لینے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اور اس طرح دعا جیسی عظیم عبادت اور حقیقی و شرعی طریقہ علاج سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بلاشبہ جادو یا کسی بھی مرض سے چاؤ یا علاج کے لیے توعید لٹکانے کی اجازت دینا درست نہیں بلکہ اس کے بر عکس لوگوں کو توعید اتنا نے کی دعوت دنی چاہیے۔

جنات و آسیب زدگی کی حقیقت اور اس کے علاج کا بیان

باب حقيقة الجن والصرع و علاجه

جناث کا مختصر تعارف

لفظ جن کا مفہوم

لفظ جن کا معنی ہے ”چھپی ہوئی چیز“۔ پونکہ جنات بالعموم نظروں سے اوچھل ہوتے ہیں اور یہ ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے اس لیے انہیں یہ نام دیا گیا ہے۔ اسی سے لفظ جنین ہے جو پیش کے بچے کو کہتے ہیں، اسے بھی یہ نام اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مجن بھی اسی سے ہے، اس کا معنی ذہال ہے، چونکہ ذہال جنگ میں جنگجو کو چھپانے کا کام دیتی ہے اس لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ لوگوں میں رہائش پذیر جنات کو عامر (بعض عمار) کہتے ہیں۔ خبیث جنوں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر ان کی خباشت زیادہ ہو تو انہیں مارد کہا جاتا ہے اور اگر یہ سرکشی اور قوت و طاقت میں بہت زیادہ ہوں تو انہیں عفریت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عفریت کی وضاحت میں خبیث اور سرکش کے لفاظ استعمال فرمائے ہیں۔^(۱) جبکہ علامہ ابو بکر الجزاہی فرماتے ہیں کہ جو جن شدید قوت و طاقت کا مالک ہوا سے عفریت کہا جاتا ہے۔^(۲)

جن اور شیطان میں فرق

جنات میں نیک بھی ہیں اور بد بھی، البتہ ان کی اکثریت سرکش ہی ہوتی ہے اسی لیے انہیں کتاب و سنت میں اکثر مقامات پر شیاطین کے نام سے، ہم موسوم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿وَمِنَ الشَّيْطِينِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذِلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفَظِينَ﴾ [الانبیاء: ۸۲] ”اسی طرح بہت سے شیاطین (یعنی جنات) بھی ہم نے ان (یعنی سلیمان علیہ السلام) کے تابع کیے تھے جو ان کے حکم سے (سمندر سے موٹی نکالنے کے لیے) غوطے لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے تھے۔“

ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ ﴿وَالشَّيْطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ [ص: ۳۷] ”اور (طاقدور) جنات کو بھی (سلیمان علیہ السلام) کا ماتحت کر دیا ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور کو۔“ علامہ ابو بکر الجزاہی کے مطابق یہاں شیاطین سے مراد جنات ہیں۔^(۳)

(۱) تفسیر البیضاوی (۴۳۸/۴)] (۲) [ایسرا التفاسیر (۱۳۸/۳)] (۳) [ایضا (۴۰۲/۳)]

آیت کی حقیقت اول اس کا علاج ﴿الْفَوْيَةُ مِنْ فَوْيَةِ النَّعْجَرِ﴾

بالغاظ دیگر سرکش جنوں کو ہی شیاطین کہا گیا ہے کیونکہ لفظ شیطان عربوں میں ہر سرکش اور باغی کے لیے بولا جاتا ہے۔^(۱)

لہذا جن اور شیطان میں فرق یہ ہوا کہ جنات میں نیک و بد اور مسلم و غیر مسلم ہر طرح کے ہوتے ہیں جبکہ شیطان وہ جن ہوتا ہے جو صرف بد، فاجر و کافر اور غیر مسلم ہو۔ چنانچہ امام بغوی جملہ رقمراز ہیں کہ ((وَفِي الْجِنِّ مُسْلِمُونَ وَكَافِرُونَ ... وَأَمَّا الشَّيَاطِينُ فَلَيْسَ مِنْهُمْ مُسْلِمُونَ ...))

”جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی... جبکہ شیاطین میں مسلمان نہیں ہوتے...“^(۲)
بہر حال یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر شیطان جن ہی ہوتا ہے جبکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر جن بھی شیطان ہی ہو۔
تاہم یہ یاد رہے کہ تخلیقی اعتبار سے جنات و شیاطین میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے۔
جیسا کہ اس کے دلائل آگے آرہے ہیں۔

جن بھی ایک مخلوق ہے جس کا وجود انسان سے بھی قدیم ہے

جن بھی ایک مخلوق ہے اس کے متعلق تو آنکہ عنوان کے تحت آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ صراحة فرمائی ہے کہ ”میں نے جنوں کو پیدا فرمایا“۔ تاہم یہاں یہ یاد رہے کہ جنات کا وجود انسانوں سے بھی قدیم ہے جیسا کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیت سے یہ وضاحت ہوتی ہے:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمِّا مَسْنُونٍ﴾^(۳) وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِّنْ تَارِ السَّمُومِ^(۴) [الحجر : ۲۶-۲۷] ”یقیناً ہم نے انسان کو کامی اور سری ہوئی ٹھنکناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔“
اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوواہی آگ سے پیدا کیا۔“

ان آیات کی تفسیر میں امام ابن کثیر جملہ رقمراز ہیں کہ ”اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے پیدا کیا“ سے مراد یہ ہے کہ ”انسان“ (کی پیدائش) سے پہلے۔^(۵) امام بغوی جملہ نے نقل فرمایا ہے کہ ”اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے پیدا کیا“ کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ یہاں الجان سے مراد ابو الجن ہے جیسے کہ حضرت آدم عليهما السلام ابو البشر ہیں اور حضرت قفارہ بن عاصی کا بیان ہے کہ یہاں الجان سے مراد ابو الجن ہے جسے آدم عليهما السلام سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔^(۶) امام شوکانی جملہ نے فرمایا ہے کہ ”اور اس سے پہلے“ سے مراد ہے آدم عليهما السلام کی پیدائش سے پہلے۔^(۷) علام ابو بکر الجزاری نے بھی یہی نقل فرمایا ہے۔^(۸)

(۱) [السان العرب (مادہ: شطرن)] (۲) [معالم التنزيل - المعروف بـ تفسير بعوی (۴/ ۳۷۹)]

(۳) [تفسير ابن کثیر (۴/ ۵۲۳)] (۴) [تفسیر بعوی (۴/ ۳۷۹)]

(۵) [تفسير فتح العذیر (۴/ ۱۷۶)] (۶) [ایسر التفاسیر (۲/ ۲۷۸)]

جنات کی تخلیق کا مقصد

جنات کی تخلیق کا مقصد بھی انسانوں کی طرح یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَنَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔“

پھر جیسے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے نیک بندے بن جاتے ہیں اور کچھ نافرمانی پر ہی آڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی کچھ تو مسلمان اور نیک ہوتے ہیں اور کچھ کافروں فاجر۔ چنانچہ قرآن کریم میں جنوں کا پانی یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ

﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَنْسَلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرُرُوا رَشِداً ۚ وَأَنَا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَّبَا﴾ [الجن: ١٤-١٥] ”ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں۔ پس جو فرمادرار ہو گئے انہوں نے توراہ راست کا قصد کیا۔ اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔“

جنات کی تخلیق آگ سے کی گئی ہے

(1) ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿وَالْجَنَّانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِنْ تَارِ السَّمَوَمِ﴾ [الحجر: ٢٧] ”اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔“

حضرت ابن عباس رض نے فرمایا ہے کہ ”السموم سے مراد وہ آگ ہے جو قتل کر دیتی ہے۔“^(۱) علامہ ابوکمر الجزاری فرماتے ہیں کہ ”تار السموم سے مراد وہ آگ ہے جس میں دھوائیں ہوتا، جو انسانی جسم کے سام (لطیف سوراخوں) میں داخل ہو جاتی ہے۔“^(۲) امام ابن کثیر رض نے ابو الحسن رض کی روایت نقل فرمائی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمرو بن اصم کی بیماری پر سی کے لیے ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، کیا میں آپ سے وہ بات بیان نہ کروں جو میں نے عبد اللہ بن مسعود رض سے سنی ہے؟ آپ فرماتے تھے کہ ہماری یہ آگ اس آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے جس سے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا، پھر انہوں نے درج بالا آیت کی تلاوت کی۔^(۳)

(2) ایک دوسرا ارشاد یوں ہے کہ ﴿وَخَلَقَ الْجَنَّانَ مِنْ مَارِيجٍ مِنْ تَارٍ﴾ [الرحمن: ۱۵] ”اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔“

(3) فرمان نبوی ہے کہ ﴿خَلَقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِيجٍ مِنْ تَارٍ وَخُلِقَ آدُمُ﴾

(۱) [تفسیر طبری (٤٠١٤)] (۲) [ایسر التفاسیر (٢٧٨/٢)]

(۳) [تفسیر ابن کثیر (٤/٥٣٣) مستدرک حاکم (٢/٤٧٤) کتاب التفسیر: سورۃ الرحمن]

آیت کی حقیقت اور اس کا ملک (الْوَاقِعَةُ مِنْ الْكِتَابِ)

مما وصف لکم ۴) ”فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم علیہ کواں چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو تمہیں بیان کر دی گئی ہے (یعنی منی)۔“ (۱)

جنات کی شکل و صورت

بالعموم جنات کے متعلق یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ انہائی فتح اور خطرناک شکل کے مالک ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنات کی شکل و صورت کے بارے میں حقیقی طور پر کچھ کہنا ناممکن ہے کیونکہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی صراحةً موجود نہیں۔ البتہ چند دلائل سے جنات کے مختلف اعضاء کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کے پاس دل، آنکھ اور کان ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿وَلَقَدْ ذَرَ أَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذْنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الاعراف : ۱۷۹] ”اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔“

ای طرح بعض احادیث میں جنات کے سینگوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ﴿ثُمَّ أَصْبَرْتُ عَنِ الْصَّلَةِ حَتَّى تَغْرِبَ الشَّمْسُ فَلَمَّا تَغَرَّبَ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ﴾ ”پھر سورج غروب ہونے تک نماز سے رُک کر ہو کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔“ (۲)

جنات کی اقسام

حضرت ابوالعلیہ صلی اللہ علیہ وسالہ و علی آنکھیں نے فرمایا (الْجِنْ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَ صِنْفٌ حَيَّاتٌ وَ كَلَابٌ وَ صِنْفٌ يَحْلُونَ وَ يَظْعَنُونَ) ”جنات کی تین اقسام ہیں ① ایک قسم کے جنات وہ ہیں جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ ② دوسرا قسم کے جنات وہ ہیں جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ③ تیسرا قسم ان جنات کی ہے جو مختلف مقامات پر پڑا ذکرتے ہیں اور سفر پر رہتے ہیں۔“ (۳)

شیطان اکبر ”ابليس“، بھی جن ہی ہے

(۱) ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الکهف : ۵۰] ”(ابليس) جنون

(۱) [مسلم] (۲۹۹۶) کتاب الزهد والرقائق]

(۲) [بخاری] (۳۲۸۶)

(۳) [صحیح : المشکلة للألبانی] (۴۱۴۸) طبرانی کبیر (۵۷۲۳) مستدرک حاکم (۳۷۰۲) امام حاکم صلی اللہ علیہ وسالہ و علی آنکھیں نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔

میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔“

(2) ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ ابلیس نے آدم ﷺ کو وجودہ نہ کرنے کا سبب یہ بیان کیا کہ ﴿أَنَّا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَا مِنْ تَأْرِيَةٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الاعراف: ١٢] ”میں اس سے بہتر ہوں (کیونکہ) تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔“

(3) حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس لمحہ بھر کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہ تھا کیونکہ وہ توجہات کی اصل تھا جیسا کہ آدم ﷺ انسانوں کی اصل ہیں۔^(۱)

ابلیس نے ہی آدم و حواء علیہما السلام کو جنت سے نکلوایا تھا

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿فَوَسُوسْ لَهُمَا الشَّيْطَنُ لِيُبَدِّلَ لَهُمَا مَا فُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْا إِيمَانَهُمَا وَقَالَ مَا تَهْكُمُ
رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ شَكُونَ أَمِنَ الْخَلِيلَيْنِ^(۲) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَيْلَيْنَ
الْتَّصِيحَيْنِ^(۳) فَدَلَّلُهُمَا بِغُرُوبِ رَفِلَّيَا ذَاكَ الشَّجَرَةَ بَدَثَ لَهُمَا سَوْا إِيمَانَهُمَا وَظَفِيقَا يَخْصِفُنَ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادِيهِمَا رَبِّهِمَا الْأَنْدَانِهِمْ كُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلَى لَكُمَا إِنِّي الشَّيْطَنُ لَكُمَا
عَدُوٌّ مُّبِينٌ^(۴) قَالَ أَرَيْنَا ظَلَمَنَّا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَيْرِيْنِ^(۵)
قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِيَعْبِضُ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ^(۶) قَالَ فِيهَا
تَحْيَيْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ^(۷)﴾ [الاعراف: ۲۰-۲۵] ”پھر شیطان نے ان دونوں کے
دوں میں وسوسہ الاتا کہ ان کی شرمنگا ہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے رو برو بے پردہ کر دے
اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا، مگر شخص اس وجہ سے
کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے رو برو تم کھا
لی کہ یقین مانو میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سوان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب
درخت کو پچھا دنوں کی شرمنگا ہیں ایک دوسرے کے رو برو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے
جوڑ جوڑ کر کھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ
کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر
تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو اتنی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق
تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے واسطے زمین

(۱) تفسیر الطبری (۳۲۲/۱۵) تفسیر ابن کثیر (۱۶۷/۱۵)

﴿الْقَاتِلُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ﴾ آیت کی حقیقت اور اس کا علاج

میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔“

ابليس کی وجہ سے ہی دنیا میں شرک و بت پرستی کا آغاز ہوا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قومِ نوح میں ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسرا نی کا پانچ نیک صالح بزرگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے کسی طرح سے ان کی (اگلی نسل یا قوم) کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان پانچوں بزرگوں کے بت بنا کر اپنی مخلوقوں (اور اجتماعات وغیرہ) میں رکھو اور ان بتوں کے نام بھی اپنے بزرگوں کے ناموں پر رکھو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا (اور اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے مگر) اس وقت ان بتوں (کو محض بزرگوں کی یاد کے لیے بنایا گیا تھا ورنہ قومِ نوح کے نیک صالح لوگ ان) کی عبادت و پرستش نہیں کرتے تھے لیکن جب یہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت بنا تھے اور لوگوں میں علم بھی نہ رہا (کہ یہ بت تو محض بزرگوں کی یاد کا ایک ذریعہ تھے) تو پھر ان بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔^(۱)

ابليس کا لٹکانے پانی پر ہے

اور وہاں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے چیلوں کو روائے کرتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ ﴿إِنَّ إِبْلِيسَ يَضْطَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَعْثُ سَرَايَاهُ... نَعَمْ أَنْتَ﴾^(۲) ابليس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اپنے لشکروں کو بھیجا ہے (تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں)، اس کے لشکر میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا قشر برپا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے لشکر میں ایک شیطان آکر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں برائی کروائی ہے۔ ابليس کہتا ہے کہ نہیں، تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ابليس اسے کہتا ہے، تم نے واقعی برا کام کیا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔^(۳)

جنت کا وجود

آیات قرآنیہ کی روشنی میں جنت کا اثبات

قرآن کریم میں تقریباً انیس (۱۹) مقامات پر لفظ الجن استعمال ہوا ہے^(۴) اور ایک مقام پر لفظ الجان

(۱) ابخاری (۴۹۲۰) کتاب تفسیر القرآن: باب و داولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق

(۲) امسیم (۲۸۱۳) کتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاہ

(۳) الانعام: ۱۰۰، الاعلام: ۱۲۸، الانعام: ۱۳۰، الاعراف: ۳۸، الاعراف: ۱۷۹

مذکور ہے۔^(۱) علاوہ ازیں متعدد مقامات پر شیاطین کا نام لے کر بھی جنات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس قدر جنات کا ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات کا وجود ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ مزید اس حوالے سے چند آیات حسب ذیل ہیں:

- (۱) ﴿وَجَعَلُوا لِلّهُ شَرَّكَاءِ الْجِنِّ﴾ [الانعام: ۱۰۰] ”اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنارکھا ہے۔“
- (۲) ﴿يَمْعَثِرُ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَمْرًا تُكْمِلُ كُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ يَقْصُدُونَ عَلَيْكُمُ الْبَرَقَ﴾ [الانعام: ۱۳۰] ”اے جنوں اور انسانوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے...؟“
- (۳) ﴿وَخُيَثِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالظَّلَمِ﴾ [النمل: ۱۷] ”سلیمان (علیہ السلام) کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندج مل کر گئے۔“
- (۴) ﴿وَأَذْصَرَ فُتَّالَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَعْوَنَ الْقُرْآنَ﴾ [الاحقاف: ۲۹] ”اور یاد کرو! جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں۔“
- (۵) ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ۵۶] ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تا کہ وہ میری عبادت کریں۔“

احادیث نبویہ کی روشنی میں جنات کا اثبات

قرآن کریم کی طرح بہت سی صحیح احادیث میں بھی جنات کا واضح ذکر موجود ہے۔ جنات کی رہائش گاہوں، خوارک، شکل و صورت، اقسام و انواع اور مختلف واقعات وغیرہ کا بیان ہے۔ جس سے یقینی طور پر جنات کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ بطور مثال چند احادیث حسب ذیل ہیں:

- (۱) حضرت ابو سعید خدری رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُوَذِّنِ حِنْ وَ لَا إِنْسٌ وَ لَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ”جن، انسان اور ہر وہ چیز جو مذکون کی آواز سننی ہے قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔“^(۲)
- (۲) حضرت ابو ہریرہ رض کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿إِنَّ لِلّهِ مَا تَأْتِيَ مَرَحَةً ، اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَ اِحْدَدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ...﴾ ”بلاشہ اللہ تعالیٰ کے پاس سورجتیں ہیں۔ اس نے ان میں سے ==الکھف: ۱۵۰، النمل: ۱۷، الانعام: ۳۹، سبا: ۱۲، سبا: ۱۴، سبا: ۴۱، [فصلت: ۲۵]، [=الرَّحْمَن: ۲۹، [=الاحقاف: ۱۸]، [=الاحقاف: ۲۹]، [=الذاريات: ۵۶]، [=الرَّحْمَن: ۳۳]، [=الْجَن: ۱۱]، [=الْجَن: ۲۶]
- (۱) [=الرَّحْمَن: ۱۵]
- (۲) [بخاری (۶۰۹) کتاب الأذان: باب رفع الصوت بالنداء]

ایک رحمت کو جنوں، انسانوں، چوپائیوں اور کیڑے مکوڑوں میں تقسیم فرمایا ہے چنانچہ وہ اس رحمت کے باعث آپ نے میلان رکھتے ہیں اور اس کے سبب باہم محبت و شفقت کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو شی جانور اپنے چھوٹے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ننانوے (۹۹) رحمتوں کو (اپنے پاس) روک رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ان کو اپنے بندوں پر نجھاؤ فرمائے گا۔^(۱)

(3) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنات کو قرآن نہیں سنایا اور ان کو دیکھا بھی نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ اس زمانہ میں عکاظ کے بازار گئے جبکہ شیطانوں پر آسمانی دروازے بند ہو گئے تھے اور ان پر آگ کے شعلے بر سائے جا رہے تھے۔ چنانچہ شیطانوں کے ایک گروہ نے اپنے لوگوں میں جا کر کہا کہ ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا اور ہم پر آگ کے شعلے بر بننے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب ضرور کوئی نیا معاملہ ہے، تو تم مشرق و مغرب کی طرف پھر کر خرا لو اور بدیکھو کہ کیا جبکہ ہے جو آسمان کی خبریں آنا بند ہو گئی ہیں۔ وہ زمین میں مشرق و مغرب کی طرف پھرنے لگے، ان میں سے کچھ لوگ تہامہ (ملک جہاز) کی طرف عکاظ کے بازار کو جانے کے لیے آئے اور آپ ﷺ اس وقت (مقام) خل میں اپنے اصحاب کے ساتھ فخر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن ساتا تو ادھر کان لگادیئے اور کہنے لگے کہ آسمان کی خبریں موقوف ہونے کا یہی سبب ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گئے اور کہنے لگے کہ اے ہماری قوم کے لوگو!

﴿إِنَّا سَمِعْتُ قُرْآنًا عَجَبًا (۱) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بَهِ (۲) وَلَئِنْ تُشَرِّكْ بِرِّتَنَا أَحَدًا (۳)﴾ [الحسن : ۲-۱] ہم نے ایک عجیب قرآن سنائے جو کچھ راہ کی طرف لے جاتا ہے پس ہم اس پر ایمان لائے اور ہم کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر سورہ جن نازل فرمائی۔^(۲)

(4) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز اچانک ہم سے غائب ہو گئے، ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے اور آپ میں کہنے لگے کہ شاید آپ کو کسی نے انحو کر لیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ وہ رات ہم نے بہت تکلیف میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو نہ کھا کر آپ غارِ حراء کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو تباہ کر رات کو اچانک آپ ہم سے غائب ہو گئے تھے، ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا اور آپ کے نہ ملنے پر ہم ساری رات پر بیشان رہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿أَتَانِي دَاعِيُ الْجِنِ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأَتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ﴾ "میرے پاس جنوں کا ایک نمائندہ آیتھا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور جا کر جنوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔" (راوی کا بیان ہے کہ) پھر آپ ﷺ میں

(۱) مسلم (۲۷۵۲) کتاب التوبۃ، بخاری (۶۰۰۰) کتاب الادب]

(۲) مسلم (۴۴۹) کتاب الصلاۃ: باب الحبیر بالقراءۃ فی الصبح و القراءۃ علی الحسن، بخاری (۷۷۲)]

اس جگہ لے کر گئے اور جنوں کے قدموں اور آگ کے نشانات ہمیں دکھائے۔^(۱)

(۵) فرمान نبوی ہے کہ ”جب کوئی شخص بیت الحلاء میں داخلے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو جنات کی آنکھوں اور اولاد آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔“^(۲)

واضح رہے کہ جنات کے ذکر والی احادیث کے علاوہ وہ تمام احادیث بھی جنات کے وجود کا ہی ثبوت ہیں جن میں شیاطین کا تذکرہ ہے کیونکہ شیاطین بھی سرکش جنوں کا ہی دوسرا نام ہے۔

اہل علم کے اقوال و فتاویٰ کی روشنی میں جنات کا اثبات

سلف صالحین اور کبار علماء وفقہا نے بھی درج بالا دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنات کے وجود کو ثابت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ، انبیاء کرام، الہامی کتب اور فرشتوں پر ایمان کی طرح جنات پر ایمان لانا بھی واجب قرار دیا ہے اور بعض نے تو جنات کے وجود کا انکار کرنے والوں کو کافر و مشرک تک قرار دیا ہے۔ چند اقوال حسب ذیل ہیں:

(قرطبیہ بنہ) کافر فلاسفہ و اطباء کی ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ پر افسوس پردازی کرتے ہوئے جنات کے (خارجی) وجود کا انکار کیا ہے (اور انہیں محض بدی کی ایک طاقت قرار دیا ہے) حالانکہ قرآن و سنت ان کی تردید کرتے ہیں۔^(۳)

(شیخ الاسلام ابن تیمیہ بنہ) اہل السنۃ والجماعۃ اور ہر مسلمان گروہ نے تو جنات کے وجود کی خالفت کرتا ہے اور نہ ہی اس بات کی خالفت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔^(۴) ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جنات کا وجود کتاب و سنت اور سلف امت کے اجماع سے ثابت ہے۔^(۵) ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ امت کی اکثریت جنات کے وجود کی قائل ہے۔ جنات کا انکار صرف جاہل لوگ ہی کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسی قابل اعتماد دلیل بھی موجود نہیں جو ان کے دعوے کی تصدیق کرتی ہو بلکہ صرف عدم علم (یعنی جہالت) ہی ہے۔^(۶)

(ابن حزم بنہ) جس نے جنات (کے خارجی وجود) کا انکار کیا یا ظاہر کے خلاف ان کی کوئی تاویل کی تو وہ کافر و مشرک ہے اور (دوسرے مسلمانوں کے لیے) اس کا خون اور مال حلال ہے۔^(۷) ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ جنات کی حقیقت ہے۔^(۸) ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مسلمان، عیسائی،

(۱) مسلم (۴۵۰) کتاب الصلاة: باب الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصِّحَّ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْحَنْ ، بخاری (۳۸۵۹)

(۲) صحيح: صحيح الجامع الصغير (۱۰-۶) ترمذی (۲۶۱۰) مشکاة المصابیح (۳۵۸)

(۳) تفسیر قرطضی (۶/۱۹) []

(۴) [محسوں الفتاوی لابن تیمیہ (۱۸۲/۴)]

(۵) [ایضا (۴۴/۵)]

(۶) []

(۷) امراتب الاجماع (ص: ۱۷۴)

(۸) الفصل (۱۷۹/۳)

مجوں، بے دین اور اکثر یہودی اس بات پر متفق ہیں کہ جنات کا وجود ہے۔^(۱)

(ابو الحسن تقی الدین بنکلی رحمۃ اللہ علیہ) نقل فرماتے ہیں کہ امام الحرمین نے متعارفہ کے متعلق ذکر کیا ہے کہ وہ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کیونکہ جو قرآن کی تصدیق کرتا ہے وہ جنات کے وجود کا انکار کیونکر کر سکتا ہے (کیونکہ قرآن خود جنات کا وجود ثابت کرتا ہے)۔^(۲)

(علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ) جنات کے وجود پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔^(۳)

(شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ) جنات کا انکار کرنے والوں کا ایمان ناقص ہے۔^(۴)

(شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعید رحمۃ اللہ علیہ) سورہ جن کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں بہت بے فائدہ ہیں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ جنات کا وجود ہے۔^(۵)

(شیخ صالح الفوزان) جس نے جنات کے وجود کا انکار کیا وہ کافر ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے اور جنات کے وجود پر اجماع ہے۔^(۶)

(شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ) شرح عقیدہ طحاویہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جنات پر بھی ایمان واجب ہے کیونکہ ان کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے اور درحقیقت قرآن پر ایمان میں جنات پر ایمان بھی شامل ہے۔^(۷) ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ جس نے جنات کے وجود کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔^(۸)

(شیخ عبداللہ بن محمد الغنیمان) جنات کے وجود کا انکار زندیق ہی کرتے ہیں اور جو بھی جنات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا بن جاتا ہے۔^(۹)

(شیخ محمد صالح المنجد) جنات کا وجود کتاب و سنت سے ثابت ہے۔^(۱۰)

(ابو محمد عصام بن شیراز کشی) جنات کا وجود اور ان کے بہت سے احوال و صفات کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔^(۱۱) کویت کی وزارتہ الادوqاف کے شائع کردہ موسوعہ فقهیہ میں ہے کہ ”جنات کا وجود کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اس پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے لہذا ان کے وجود کا منکر کافر ہے کیونکہ اس نے ایسی چیز کا انکار کیا ہے جو دین میں ضروری طور پر ثابت ہے۔“^(۱۲)

(۱) [فتاویٰ السبکی (۱۱۲/۵)]

(۲) [الفصل (۱۰/۷/۵)]

(۳) [فیض القدیر (۴/۸۱/۳)]

(۴) [شرح العقیدۃ الطحاویۃ لابن حجرین (۳/۹۹/۹)]

(۵) [تيسیرالکریم الرحمن (۱/۸۹۱/۱)]

(۶) [اعانۃ المسفید شرح کتاب التوحید (۱/۳۲/۱)]

(۷) [تحفۃ السائل بمناقب الصحاویۃ من مسائل (مسئلہ: ۲۴)]

(۸) [شرح العقیدۃ الطحاویۃ (ص: ۳۲۲)]

(۹) [فتاویٰ الاسلام سؤال و جواب (۱/۵۲/۱)]

(۱۰) [شرح العقیدۃ الواسطیۃ للعنینی (۱/۱۶)]

(۱۱) [الموسوعۃ الفقہیۃ الکوئٹیۃ (ص: ۱/۹۱)]

(۱۲) [شرح منظومة الایمان (ص: ۳/۲۰)]

جنت کے منکر اور ان کی تردید

اوپر بیان کردہ واضح نصوص اور کبار ائمہ و علماء کی تصریحات کے باوجود کچھ حضرات نے جنت کے وجود کا انکار کیا ہے۔ جنت کے منکرین کے چند اعترافات اور ان کے جوابات حسب ذیل ہیں:

✿ جنت کے منکرین کا کہنا ہے کہ اگر جنت کا وجود ہے تو پھر وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ اعتراف ہی جہالت پر مبنی ہے کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ ضروری نہیں جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود بھی نہ ہو۔ اور بہت ہی اشیاء ایسی ہیں جو ناظروں سے تو اوجھل ہیں مگر سب ان کا اعتقاد رکھتے ہیں جیسا کہ روح جس کی وجہ سے انسان میں حرکت ہے، کسی کو نظر نہیں آتی مگر اس کا وجود ہے۔ اسی طرح سانس، عقل اور رُد وغیرہ ایسی اشیاء ہیں جو نظر نہیں آتیں مگر ان کے وجود کا کوئی بھی منکر نہیں۔ نیز خود اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتہ، جنت اور جنم وغیرہ کے وجود پر بھی سب کا ایمان ہے حالانکہ یہ اشیاء بھی ناظروں سے اوجھل ہیں۔

محض دھائی نہیں کی بنیاد پر جنت کا انکار کرنے والوں کی تردید میں امام ابن تیمیہ چلث نے نقل فرمایا ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے علاوہ بھی بہت سے ذرائع ہیں جن سے جنت کا وجود ثابت ہوتا ہے جیسا کہ بہت سے لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہے اور کچھ نہیں ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جنت کو دیکھا ہے اور یہ بات ان کے ہاں یقینی خبر سے ثابت ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جنت سے گفتگو بھی کی ہے یا جنت نے ان سے گفتگو کی ہے۔^(۱)

✿ منکرین کا کہنا ہے کہ قرآن میں جو جنوں کا ذکر ہے اس سے مراد الگ کوئی مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی کی بھی کی تو میں مراد ہیں اور بعض مقامات پر پہاڑی اور جنگلی قویں مراد ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم فرماتے ہیں کہ اولاً تو یہ بات اس وجہ سے درست نہیں کہ لفظ جن کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز اور جنت کے وجود کے ساتھ اس معنی کی مناسبت بھی ہے کہ وہ ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے جو بالعموم دھائی نہیں دیتی۔ تمام معتبر کتب لغت جیسے لسان العرب، صحاح، مفردات امام راغب، قاموس اور تاج العرب وغیرہ میں لفظ جن کا بھی معنی بیان ہوا ہے۔ اب اگر یہ لفظ کسی اور مخلوق کے لیے بولاجائے تو اس میں کم از کم یہ صفت ضرور ہوئی چاہیے کہ وہ مستور اور غیر مرئی ہو، جو عموماً دھائی نہ دے۔ تو کیا انسان خواہ پہاڑی ہو یا جنگلی یا وحشی دھائی نہیں دیتا؟۔

دوسرے یہ کہ اگر بالفرض قرآن میں کسی جگہ لفظ جن بول کر انسانوں کا کوئی خاص گروہ مراد لیا گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسانوں کی ہر صفت کے لیے عربی میں الگ لفظ موجود ہیں تو پھر دوسری مخلوق کے ساتھ خاص لفظ انسانوں کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟۔

(۱) [جمیع المحتاوی لابن تیمیہ (۴: ۲۳۲)]

تیرے یہ کہ وہ تمام آیات بھی اس اعتراض کو باطل قرار دیتی ہیں جن میں انسان اور جن دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہے اور ان آئتوں سے یہ بالکل واضح ہے کہ جن و انس ایک نہیں بلکہ الگ الگ مخلوقات ہیں۔ اس حوالے سے چند آیات حسب ذیل ہیں:

(1) ﴿وَيَوْمَ يَحْسُنُ هُنَّ تَجْيِعًا يَمْعَثِرُ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْرِثُمْ مِنَ الْإِنْسَنِ وَقَالَ أَوْلَيُؤُهُمْ قَنْ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بِعَضْنَا بِعَغْضِ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْلَتْ لَنَا﴾ [الانعام: ۱۲۸] "اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، (کہیے گا) اے جنات کی جماعت! تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آپنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔"

(2) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا إِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ كِعَامِ مَسْنُونٍ وَأَنْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِنْ نَارٍ السَّمُومَ﴾ [الحجر: ۲۶-۲۷] "یقیناً ہم نے انسان کو کامی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔"

(3) ﴿خَلَقَ إِلَّا إِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِيجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن: ۱۵-۱۴] "الرحمن: ۱۵-۱۴" اس (اللہ) نے انسان کو بننے والی مٹی سے پیدا کیا جو محکمری کی طرح تھی۔ اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔"

(4) ﴿فَيَوْمَ مِيزِيلَالْيُسْرَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِذْنُ وَلَا حَاجَنُ﴾ [الرحمن: ۳۹] "اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی بابت نہیں پوچھا جائے گا۔"

(5) ﴿لَخَيْطِمُهُنَّ إِذْنُ قَبْلَهُمْ وَلَا حَاجَنُ﴾ [الرحمن: ۵۶] "جنت میں ایسی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔"

(6) ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسَنِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَرَأُوهُمْ رَهْقَانِ﴾ [الجن: ۶] "بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور برداشت گئے۔" ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنات اور انسان ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ مخلوقات ہیں۔

اس حوالے سے مولانا مودودی خلائق رقطراز ہیں کہ "کسی شخص کے لیے جو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر ایمان رکھتا ہو، یہ جائز نہیں کہ جس کو خدا نے "جن" کہا ہے اور آدمی نہیں کہا، اس کو وہ اپنے قیاس سے آدمی کہہ دے۔ ایسا قیاس کرنے کے لیے اگر کوئی سبب داعی ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ عادت جاریہ، جس کا مشاہدہ اور ادراک کرنے کے ہم خوگر ہیں، ان واقعات کے خلاف

ہے جو بعض مواقع پر قرآن مجید میں جنوں کی طرف منسوب کیے گئے ہیں لیکن اسی طرح آگ کا ایک خاص شخص کے لیے سرد ہو جانا، لکڑی کا ایک خاص موقع پر اٹھ دھا بن جانا، دریا کا ایک خاص وقت میں پھٹ کر راستہ دے دینا، ایک شخص کامی کے پرندہ بن کر ان میں جان وال دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا، چند آدمیوں کا ایک غار میں تین سو سال تک سوئے پڑے رہنا اور پھر بھی زندہ رہنا، ایک شخص کا مرنے کے سو برس بعد جی انھنا اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو جوں کا توں بالکل تازہ حالت میں پانا، ایک شخص کا ساڑھے نو سو برس تک زندہ رہنا اور وہ بھی یوگا کی مشقوں سے نہیں بلکہ ایک مسخر قوم کے مقابلہ میں تبلیغ دین کی تھکادی نے والی مشقوں کے ساتھ، یہ اور ایسے ہی متعدد واقعات ہیں جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور سب اس عادت جاریہ کے خلاف ہیں جس کو دیکھنے کے ہم خونگر ہیں۔ اگر ہم قرآن کو خداۓ علیم و حبیر اور قادر و قوانا کا کلام نہ مانیں تو سرے سے ان واقعات کی تاویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مخفی اس بنیاد پر ان سب کو جھٹلا دیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہوتے ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن اس خدا کا کلام ہے جو اذل سے ابد تک عالم وجود کے ہر چھوٹے بڑے واقعہ کا حقیقی علم رکھتا ہے اور خدا و خدا ہے جس کے مجرزے ہم کو سورج اور سیاروں اور زمین اور خودا پیے وجود میں ہر آن نظر آ رہے ہیں تو ہمیں کسی غیر معمولی اور خلاف عادت واقعہ کو بعینہ اسی طرح تسلیم کرنے میں تامل نہیں ہو سکتا جس طرح وہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعات تو کیا چیز ہیں، اگر قرآن میں کہا گیا ہوتا کہ ایک وقت میں چاند کو ماڈت ایورست پر لا کر رکھ دیا گیا تھا اور کسی وقت خدا نے سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکالا تھا اور کسی ایک مومن صادق کو اس بیان کی صداقت میں ایک لمحے کے لیے شک نہ ہو سکتا تھا اور نہ کسی طرح تاویل کر کے اس کو عادت جاریہ کے مطابق ثابت کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اس لیے کہ یہ کائنات جس کی وسعت کاقصور کرنے سے ہمارا دماغ تھک جاتا ہے اور اس کائنات کی ہر شے تھی کہ گھاس کا ایک تنکا اور کسی جانور کے جسم کا ایک بال بھی اپنی پیدائش میں درحقیقت اتنا ہی الگینز معجزہ ہے جتنا چاند کا ایورست پر آ جانا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ فرق اگر کچھ ہے تو صرف یہ کہ ایک قسم کے واقعات کو دیکھنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، اس لیے ہم کو ان کے مجرزہ ہونے کا شعور نہیں ہوتا اور دوسرا قسم کے واقعات شاذ ہیں اس لیے ان کی خبر جب ہم کو دی جاتی ہے تو ہمیں اچنچھا ہوتا ہے اور ہماری عقول جو صرف مشاہدات و تجربات پر اعتماد کرنے کی خونگر ہو گئی ہے ان کو باور کرنے میں بھکھتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسے واقعات کے متعلق جب ہم کوئی خبر دی جائے تو ہمیں حق ہے کہ ان کے وقوع کے متعلق قابل وثوق شہادت طلب کریں۔ لیکن ایک مومن کے لیے قرآن سے بڑھ کر قابل وثوق شہادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ دل سے یقین رکھتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا کے فعل پر خود خدا ہی کی شہادت سب سے زیادہ معتبر ہے۔ البتہ جو شخص قرآن کے کلام الٰہی ہونے میں شک رکھتا ہواں کو حق ہے کہ قرآن کے ہر بیان میں شک

کرے خواہ وہ عادتِ جاریہ کے موافق ہو یا مخالف۔^(۱)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنات کا وجود ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کتاب و سنت کی واضح نصوص اور سلف صالحین کے اقوال سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی جنات کا انکار کرتا ہے تو وہ محض جہالت کی بنا پر ہی ایسا کرتا ہے جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”جنات کا انکار کرنے والے صرف چند جاہل فلسفی، اطباء اور ان جیسے لوگ ہیں۔“^(۲)

جنات کی دنیا اور چند آحوال

جنات کے حالات و واقعات، قوت و طاقت، نیکی بدی، شادی بیاہ اور زندگی موت وغیرہ کے حوالے سے کتاب و سنت میں جو امور بیان ہوئے ہیں ان میں سے چند اہم امور کا ذکر پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے:

ہر انسان کے ساتھ ایک جن مقرر ہے

ہر انسان کے ساتھ ایک جن مقرر ہے جو ہر وقت اسے گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، مگر جو جن نبی کریم ﷺ کے ساتھ مقرر تھا اسے آپ کے تابع کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ ﴿مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ وَكَلَ اللَّهُ بِهِ فَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِيَّاكَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعْنَانِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ﴾^(۳) اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن کو اس کے ساتھی کے طور پر مقرر کر کر رکھا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ کے ساتھی بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھی بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مد فرمائی ہے اور وہ میرے تابع ہو گیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف خیر و بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے۔^(۴)

حدیث کے لفظ فَأَسْلَمَ کا ایک معنی تو اور ذکر کیا گیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک دوسرا معنی بھی ذکر فرمایا ہے، وہ اس السلامۃ سے مضر از کا صید قرار دیتے ہیں تب اس کا ترجمہ یوں ہو گا کہ ”میں (اس جن کے شر اور فتنے سے) سلامت ہو گیا ہوں۔“^(۵)

جنات سرعت رفتار اور بے پناہ قوت و طاقت کے مالک ہیں

(۱) ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

(۱) ماهنامہ ترجمان القرآن - حنویری ۱۹۳۵ء، تفہیمات: حصہ دوم

(۲) [مجموع الفتاوی لابن تیمیہ (۳۲۱۹/۲۸۱۴)] (۳) [مسلم (۶۷/۱۹)]

(۴) [حواشی علی صحیح مسلم (۶۷/۱)]

﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الْمُلْكُ أَيْنُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمُوْنَ﴾^(۱۸) ﴿قَالَ عَفْرِيْتُ مِنْ الْجِنِّ أَكَا اتِّنِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَكُوْمَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَكَوْنٌ أَمِيْنُ﴾^(۱۹) [النمل: ۳۹-۳۸]

”جب آپ (یعنی سلیمان ﷺ) نے کہا اے سردار! تم میں سے کوئی ہے جو ان (اہل یمن) کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس (ملکہ سبا) کا تخت مجھے لادے؟ ایک توی ہیگل جن کہنے لگا کہ آپ کے اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں اور یقین مانئے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔“

اس آیت سے جنات کی اس غیر معمولی قوت و طاقت اور سرعت رفتار کا اندازہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز رکھی ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان (خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو) ایسا ہر گز نہیں کر سکتا کہ بیت المقدس سے ڈیڑھ ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے ملک سبا (یمن) جائے اور پھر ایک عظیم الشان تخت (جسے بہت زیادہ لوگ مل کر بھی بمشکل ہی اٹھا سکیں) اٹھا کر دو بارہ ڈیڑھ ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے اتنی قلیل مدت میں واپس آ جائے۔ مولا نا مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ”یہ کام تو آج کل کا جست طیارہ بھی انجام دینے پر قادر نہیں۔“^(۲۰)

(2) ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ

﴿وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَرِيْغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا تُنِزَّفُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾^(۲۱) ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ هَمَارٍ يَبْ وَتَمَاثِيلَ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرِ رَسِيْنِ﴾^(۲۲) [سما: ۱۲-۱۳] ”اور اس (یعنی سلیمان ﷺ) کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی تھتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کی سرتاسری کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھا کیں گے۔ جو کچھ سلیمان (ﷺ) چاہتے جنات تیار کر دیتے مثلاً قلعے، مجسمے، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیکھیں۔“

اس آیت سے جنات کی ذہانت، صنعت و ترفت اور فن تعمیر میں مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔

جنات کو انسانی اجسام میں داخل ہونے کی طاقت حاصل ہے

فرمان نبوی ہے کہ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْأَنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ﴾ ” بلاشبہ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔“^(۲۳)

اس موضوع پر تفصیلی بحث آئندہ عنوان ”جنات کی آسیب زدگی کا بیان“ کے تحت آئے گی۔

(۱) تفہیم القرآن، از سید ابوالاعلیٰ مودودی (۵۷۶/۳)

(۲) [بخاری (۲۰۳۸) کتاب الاعتكاف: باب زیارة المرأة زوجها في اعتكافه، ابو داود (۲۴۷۰) ابن ماجہ (۱۷۷۹)]

جنت فضاؤں کی بلندیوں میں پرواز کر سکتے ہیں

جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جنت خبریں چرانے کے لیے آسمان تک جائیجھتے ہیں لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک انگارہ انہیں لگتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔^(۱) قرآن میں یہ بات ان الفاظ میں مذکور ہے: ﴿وَأَنَا أَمْسَأُنَاسًا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْئِكَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾ ^(۲) وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلشَّيْعَةِ ثُمَّنِيَّتَشَيْعَةِ الْأَنَّابِيلَةِ شَهَادَاتِ أَصَادًا﴾ ^(۳) [الحن: ۹-۸] ”(جنت کہتے ہیں) اور ہم نے آسمان کوٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باقی میں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بینچ جایا کرتے تھے۔ اب جو بھی کام لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی تاک میں پاتا ہے۔“

جنت اپنی شکل و صورت تبدیل کر سکتے ہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَظَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ إِمَّا يَعْمَلُونَ حُسْنِيًّا وَإِذْرَىنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لِكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَازَ لِكُمْ فَلَمَّا تَرَأَءْتُ الْفَئَنَنَ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي تَرَى مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ^(۴) [الانفال: ۴۷-۴۸] ”ان لوگوں ہی سے نہ بخوبی اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ سے گھیر لینے والا ہے جبکہ ان کے اعمال، شیطان انہیں زیست دار دکھار ہاتھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ میں خود بھی تمہارا حمایت ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل بیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری ہوں۔ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔“

ان آیات کی تفسیر میں منسرین نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنو بکر بن کنانہ سے اندر یتھ تھا کہ وہ بیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ شیطان سراتہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا، جو بنو بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح و غالب کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا۔ لیکن جب ملائکہ کی صورت میں امدادِ الہی اسے نظر آئی تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا۔^(۵)

(۱) [بخاری (۴۸۰۰) کتاب التفسیر: باب قوله تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم...]

(۲) [تفسیر احسن البیان (ص: ۴۹۴)]

آئیت کی حقیقت اور اس کا معلوٰج

92

معلوم ہوا کہ جنات انسانی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کا ثبوت وہ روایت بھی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو مصدقہ کی گھروں کی نگرانی کے مقرر فرمایا تو شیطان ایک آدمی کی شکل میں کر آیا اور پوری کی کوشش کی مگر ابو ہریرہؓ نے اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے منت ساجت کی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔^(۱) ایک اور حدیث کے مطابق جنات سانپوں کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔^(۲)

(شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی) فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ سانپ، پھوڈوں غیرہ اور اونٹ، گائے، بکری، گھوڑا، خچر، گدھا، پندوں اور اولاد آدم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ شیطان سراقد بن مالک کی صورت میں قریش کے پاس آیا تھا جب انہوں نے جنگ بدر کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔^(۳)

(ابن حجر شیخی رضی) جنات مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں اور گھروں کے سانپ بھی بعض اوقات جن ہی ہوتے ہیں۔^(۴)

(علام عبد اللہ رحمانی مبارکبوری رضی) جنات کا لے کتے کی بھی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔^(۵)

جنات نبی کریم ﷺ کی صورت اختیار نہیں کر سکتے

فرمانِ نبوی ہے کہ ﴿فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِنِي﴾ ”یقیناً شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔“^(۶)

جنات علم غیب نہیں جانتے

کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ﴿وَعِنَّدَهُ مَعْلَمٌ عَنِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الانعام: ۵۹] ”اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں صرف وہی جانتا ہے۔“ اور بطور خاص جنات کے پاس علم غیب نہ ہونے کی دلیل درج ذیل آیت ہے:

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا كَآثِرَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاقَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيْسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِمَّ﴾ [سبا: ۱۴] ”پھر جب ہم نے ان (سلیمان علیہ السلام) پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جوان کی لاخی کو کھارہ تھا۔ پس جب (سلیمان علیہ السلام) گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس

(۱) [بخاری (۵۰۱۰) کتاب فضائل القرآن : باب فضل سورۃ البقرۃ]

(۲) امسالم (۲۲۳۶) کتاب الاسلام : باب قتل الحیات وغیرہا]

(۳) [مجموع الفتاوی لابن تیمیہ (۴۴۱۹)] (۴) [الفتاوی الحدیثیة لابن حجر الہیشی (ص: ۱۵)]

(۵) امرعۃ المفاتیح شرح مشکاة المصایب (۷۰۰۱۳)] (۶) [بخاری (۶۹۹۴) مسلم (۲۲۶۶)]

ذلت کے عذاب میں بنتا رہتے۔ "اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان ﷺ کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جاننے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان ﷺ کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔^(۱)

جنات موت کے وقت انسان کو خبطی بنا سکتے ہیں

یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ موت کے وقت شیطانی حملہ سے ان الفاظ میں اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے:

﴿أَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمْدِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِيٍّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَمْدِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذَبِّرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْنَا﴾ "اے اللہ! میں دیوار کے گرنے سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، اور اوپر جگ سے گرنے سے تیری پناہ پکڑتا ہوں اور دُوبنے جلنے اور بڑھاپے کی عمر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان (مجھ پر حملہ آور ہوا ور) مجھے خبطی بنا دے اور میں تیرے راستے میں پیچھے پھیر کر بھاگتے ہوئے مرنے سے تیری پناہ پکڑتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ کسی زبردیے جانور کے ڈنے کی وجہ سے مجھے موت آئے۔"^(۲)

جنات کی خواراک

(1) ایک حدیث میں ہے کہ جنوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی خواراک کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا "لَكُمْ كُلُّ عَظِيمٍ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يُكُونُ لِحُمَّاً وَ كُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفْ لِدَوَائِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَسْتَجُوْبُهُمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامٌ لِحَوَائِكُمْ" "تمہاری خواراک ہر وہ بڑی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ تمہارے ہاتھ میں آتے ہی گوشت سے بھر پور ہو جائے گی اور تمہارے جانوروں کا چارہ یہ نہیں ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا کہ تم ان دونوں اشیاء کے ساتھ استجامت کرو کیونکہ یہ تمہارے (مسلمان جن) بھائیوں کی خواراک ہے۔"^(۳)

(2) ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے ہدی اور گوبر سے استجامت کرنے کا سب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا "هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفَدُّ حِنْ نَصِيبِيْنَ - وَنَعْمُ الْجِنْ - فَسَالَوْنِي الرَّازَادَ ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لِهُمْ أَنْ لَا يَمْرُوا بِعَظِيمٍ وَلَا يَرْوَيْهُ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا

(۱) تفسیر احسان الیاذ (ص: ۱۲۰۲)

(۲) [صحیح: صحيح ابو داؤد، ابو داؤد (۱۵۵۲) کتاب الصلاة: باب في الاستعاذه النسائي (۲۸۳/۸)]

(۳) [مسلم (۴۵۰) کتاب الصلاة: باب الحشر بالقراءة في التصحیح والقراءة على الحسن]

طُعْمًا» ”وَهُجُونٌ كَيْ خُورَكَ بِيْز۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفادار تھا اور کیا ہی اچھے وہ جن تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے تو شد ما نگائیں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جب ہڈی یا گور پر ان کی نظر پڑے تو ان کے لیے اس چیز سے کھانا ملے۔“^(۱)

(3) ہر وہ نوالہ بھی جنات کی خوارک ہے جو زمین پر گر جائے اور اسے اٹھا کرنے کھایا جائے۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ ﴿إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةً أَحَدُكُمْ فَلْيُمْطِعْ عَنْهَا الْأَذَى وَ لِيَاكُلُّهَا وَ لَا يَدْعَهَا لِلشَّيْطَانِ﴾ ”جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے صاف کر کے کھائے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔“^(۲)

(4) ایک روایت میں جنات کے کھانے کا طریقہ بھی مذکور ہے، چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ ﴿لَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشَمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبْ بِشَمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشَمَالِهِ وَ يَشْرَبُ بِشَمَالِهِ﴾ ”تم میں سے کوئی بھی اپنے باہمیں ہاتھ سے مت کھائے پے کیونکہ شیطان اپنے باہمیں ہاتھ سے کھاتا پتیا ہے۔“^(۳)

(5) اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو جنات انسانوں کے کھانے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں جیسا کہ حضرت جابر بن عثیمین کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے (یعنی بِسْمِ اللَّهِ پڑھتا ہے) اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (دوسرے اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے نہ تو (یہاں) تمہارے لیے رات کا قیام ہے اور نہ ہی رات کا کھانا۔ لیکن جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے (یہاں) رات کا قیام پالیا اور جب انسان کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا قیام اور رات کا کھانا (دونوں کو) پالیا۔^(۴)

جنات کے پسندیدہ مقامات اور رہائش گاہیں

اہل علم کا کہنا ہے کہ بالعموم جنات اپنی رہائش کے لیے اندر یہی جگہوں، غیر آباد مکانوں، صحراؤں، جنگلوں، قبرستانوں، ویران وادیوں، سمندروں، کھیتوں، بلوں، درختوں، گھاٹیوں اور نجاست و گندگی کی جگہ کوئی پسند کرتے ہیں۔ البتہ کچھ اہل علم نے نیک اور بد جنات کی رہائش گاہوں میں فرق بتایا ہے۔ یعنی نیک جن عوام مساجد اور بیت اللہ کے قریب رہنے کو ترجیح دیتے ہیں جکہ بد اور کافروں فاجر جن بیت الخلاء اور گندگی کے ڈھیروں میں رہنا پسند

(۱) [بخاری (۳۸۶۰) کتاب مناقب الانصار: باب ذکر الحن]

(۲) [مسلم (۴۰۳۴) ابو داود (۳۸۴۵) ترمذی (۱۸۰۲) مسنداً احمد (۲۹۰۱۲) نسانی فی الکبری (۶۷۶۵)]

(۳) [صحیح: الصحیحة (۱۲۳۶) ترمذی (۱۷۹۹) ابن ماجہ (۳۲۶۶) ابو داود (۴۱۳۷)]

(۴) [مسلم (۲۰۱۸) کتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ابو داود (۳۷۶۵) کتاب

الأضعمة: باب التسمية على الطعام، ابن ماجہ (۳۸۸۷) احمد (۱۵۱۱۰)]

کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ

﴿إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُخْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ﴾ ”بلاشب ان قضاۓ حاجت کے مقامات پر جنات موجود ہوتے ہیں لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آنے کا رادہ کرے تو یوں کہے ”میں خبیث جنوں اور خبیث چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔“ (۱)

﴿الْحُشُوشَ مُخْتَضَرَةٌ﴾ کے متعلق امام ابن اثیر رض رقطراز ہیں کہ ((أَنَّ يَحْضُرُهَا الْجِنُّ وَالشَّيَاطِينُ)) یعنی ان مقامات پر جنات و شیاطین موجود ہوتے ہیں۔ (۲)

﴿الْحُشُوشَ مُخْتَضَرَةٌ﴾ کے متعلق شیخ عبد المحسن العباد فرماتے ہیں کہ ((يَعْنِي أَنَّ الْكُنْفَ أَوْ أَمَاكِنَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْضُرُهَا الشَّيَاطِينُ أَيْ شَيَاطِينُ الْجِنِّ)) یعنی بیت الخلاء یا قضاۓ حاجت کے مقامات پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں یعنی جنوں میں سے جو شیاطین ہیں۔ (۳) معلوم ہوا کہ گندگی کے مقامات پر جنوں کی وہ قسم رہتی ہے جو شیطان ہے یعنی جو بد اور فاجر ہیں۔

علاوه ازیں جنات ایسی جگہوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں جہاں دھوپ اور سایہ دونوں جسم پر پڑے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى أَنْ يُجْلِسَ بَيْنَ الصَّحَّ وَالظَّلِّ وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ﴾ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور چھاؤں کے درمیان میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔“ (۴) امام ابن اثیر رض حدیث کے ان الفاظ ((بَيْنَ الصَّحَّ وَالظَّلِّ)) کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی آدھا سورج (کی دھوپ) میں اور آدھا سارے میں ہو۔“ (۵) لہذا یہک وقت دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے پچنا چاہیے کیونکہ یہ شیطان کے بیٹھنے کا مقام ہے۔

بازاروں میں بھی جنات کا اکثر بیمار رہتا ہے کیونکہ یہی وہ مقامات ہیں جہاں پر جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود خوری، حرام خوری، عورتوں کا بناو سنگھار کر کے بے جواب گھومنا پھرنا اور گانے جانے جیسے شیطانی کام عروج پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ﴿لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَغْرِكَةُ الشَّيَاطِينِ﴾ ”اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور کرو کہ بازار میں داخل ہونے والے پہلے شخص اور بازار سے نکلنے والے آخری شخص مت بنو کیونکہ یہ شیاطین کا

(۱) [صحیح : السلسلة الناصحة (۱۰۷۰) مسنون احمد (۳۶۹/۴) ابن حبان (۱۲۶) طیالسی (۶۷۹)]

(۲) [النهاية في غريب الحديث (۹۸۸/۱)] (۳) [شرح سنن ابی داود (۷۱/۱)]

(۴) [صحیح : صحيح الترغیب (۳۰۸۱) مسنون احمد (۴۱۳/۳) شیخ شعیب ارناؤوط نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔] [الموسوعة الحدیثیة (۱۵۴۵۹)]

(۵) [النهاية في غريب الحديث (۱۶۳/۲)]

میدان جنگ ہے۔^(۱) امام ابن جوزی ہرگز فرماتے ہیں کہ بازار کو شیاطین کا میدان جنگ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے شیطان لوگوں کو مغلوب کرنے اور انہیں چھلانے کے لیے تیاری پکڑتے ہیں۔^(۲) امام ابن اثیر جو ہرگز فرماتے ہیں کہ شیاطین کے میدان جنگ سے مراد شیاطین کی وہ جگہ ہے جہاں وہ پناہ پکرتے ہیں اور جہاں وہ کثرت سے موجود ہوتے ہیں کیونکہ بازار میں حرام امور، جھوٹ، سودا اور غصب وغیرہ جیسے (شیطان کے پندیدہ) کام انجام دیئے جاتے ہیں۔^(۳)

بعض جنات ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں رہائش اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ ایک روایت کے مطابق ایک نوجوان نے اپنے گھر میں ایک سانپ کو مارا، جو درحقیقت جن تھا، جو اپاسانپ نے بھی اس نوجوان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ نوجوان بھی ہلاک ہو گیا اور سانپ بھی مر گیا۔ جب رسول اللہ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ ﴿إِنَّ إِلَيْهِ الْمُدِينَةَ نَفَرَ أَمْنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا فَسَنْ رَأَى شَيْئًا مِّنْ هَذِهِ الْعَوَامِ فَلَيُؤْذِنُهُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدَ فَلَيُقْتَلُهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ﴾^(۴) ” بلاشبہ مدینہ میں جنات کا ایک گروہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ پس جو بھی ان گھروں میں رہنے والے جنوں میں سے کسی کو پاٹے تو اسے تین دن تک (گھر چھوڑ کر چلے جانے) کی اطلاع دے، اگر وہ بعد میں بھی اسے نظر آئے تو اسے قتل کر دے کیونکہ وہ شیطان ہے۔^(۵)

جنات کے پہلے کے اوقات

ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے اور رات کا آغاز ہوتا ہے ﴿فَإِنَّ الشَّيَّاطِينَ تَشَيَّشُرُ حِينَئِيلَ﴾^(۶) ”اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں“ لہذا اس وقت اپنے بچوں کو گھروں میں روک لینا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر گھروں کے دروازے بند کر دینے چاہیے کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتے۔^(۷)

جنات کی شادیاں ہوتی ہیں اور اولاد بھی

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخْدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْ لَيْلَةَ مِنْ دُوَنِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾^(۸) [النکھف : ۵۰] ”(ایلیس) جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کی اولاد کو پانداشت بنا رہے ہو؟ حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔“

(۱) مسلم (۲۴۵۱) مسند بزار (۳۹۲۱) کتب العمال (۹۳۲۵)

(۲) اكتشف المستكمل من حديث الصحبجين (ص: ۱۰۵۳)

(۳) النهاية في عريب الحديث (۴۴۷/۲)

(۴) مسلم (۲۲۳۶) کتاب السلام : باب قتل الحيات وغیرها

(۵) انخاری (۳۳۰/۴) کتاب بدء الحلقة . باب صفة انليس ، مسلم (۱۲۰۱۲)

علوم ہوا کہ شیطان کی اولاد ہے اور یہ بات محتاج بیان نہیں کہ اولاد یوں سے ہی ہوتی ہے۔ امام شعیٰؑ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آگر مجھ سے پوچھا، کیا ابلیس کی یوں ہے؟ تو میں نے یہ آیت تلاوت کی ”کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنارہے ہو؟“ اور کہا کہ تمہیں علم ہے کہ اولاد صرف یوں سے ہی ہوتی ہے، اس پر اس نے کہا ہی ہاں۔ علاوه ازیں قادہ شفیع فرمایا کرتے تھے کہ جنات میں بھی اسی طرح تو الدو تسلسل کا سلسلہ جاری ہے جیسے اولاد آدم میں ہے۔^(۱)

جنات نہ اور مادہ ہوتے ہیں، اس کی دلیل وہ روایت ہے جس میں بیت الخلاء جاتے وقت یہ دعا پڑھنے کا ذکر ہے کہ ”اے اللہ! میں خبیث جنوں اور جڑیلوں سے بچاؤ کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“^(۲)

جنات کو جانور بھی دیکھ لیتے ہیں

فرمان نبوی ہے کہ ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ صِبَاحَ الدِّيْكَةَ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيَقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا﴾ ”مرغ کی اذان سنتوالہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور جب تم گدھے کی آواز سن تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔“^(۳)

اللہ کے کچھ نیک بندوں سے جنات ڈرتے ہیں

(1) رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر بن الخطاب سے فرمایا کہ ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجَأً إِلَّا سَلَكَ فَجَأً غَيْرَ فَجَأً﴾ ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب بھی شیطان تجھے کسی راستے سے آتا ہوادیکھتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔“^(۴)

(2) اور ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ!﴾ ”اے عمر! شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔“^(۵)

قرآن کریم انسانوں کی طرح جنات کے لیے بھی مجعزہ ہے

یعنی جنات بھی اس جیسی کتاب لانے سے تاصر ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

(۱) [دیکھئے: تفسیر ابن کثیر (۱۷۹/۵)]

(۲) [بخاری (۱۴۲) کتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء]

(۳) [بخاری (۳۲۰۳) کتاب بدء الحلق: باب خير مال المسلمين غنم يتبع بها شعف الجبال]

(۴) [بخاری (۳۲۹۴) کتاب بدء الحلق: باب صفة ابلیس و جنوده]

(۵) [صحیح: السلسلة الصحيحة (۲۲۶۱) نرمذی (۳۶۹۰) کتاب المناقب: باب في مناقب عمر]

﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنْسُسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيَتَعْصِمُ طَهِيرًا ﴾ [السراء: ٨٨] ”کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے گوہ (آپس میں) ایک دوسرے کے مدعاہدگی بن جائیں۔“

جنات میں انسانوں کی طرح مومن بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿ وَأَتَأْمِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَسِطُونَ ﴾ [الحن: ١٤] ”(جنات نے کہا) ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں۔“ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ہم میں بعض مسلمان ہیں“ سے مراد ہے کہ وہ محمد ﷺ پر ایمان رکھتے ہیں اور ”بعض ظالم ہیں“ کے متعلق حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنار کھے ہیں۔^(۱) (امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ظالم“ وہ ہیں جو حق کے راستے سے اخراج کرتے ہیں اور حق کا راستہ ایمان و اطاعت کا راستہ ہے۔^(۲)

نیک حن دوسرے جنوں کو دین کی تبلیغ بھی کرتے ہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَعِيْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِثُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذَرِينَ ﴾ [الحاقة: ۳۲-۲۹] ”اور یاد کرو! جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب (نیک کے) پاس پہنچ گئے تو (ایک دوسرے سے) کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا (یعنی آپ ﷺ نے اپنی تلاوت ختم کر لی) تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے اپس لوٹ گئے۔ کہنے لگاے ہماری قوم! ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موی (علیہ السلام) کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچ دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم! اللہ کے بلا نے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلا نے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں (بھاگ کر اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مدعاہد ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔“

انسانوں کی طرح جنوں کے پیغمبر بھی محمد ﷺ ہیں ہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

(۱) [تفسیر البیضاوی (۳۳۵/۱۵)]

(۲) [معالم التنزيل (۲۴۱/۸)]

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان : ١] ”بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتنا راتا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔“ حضرت ابن عباس علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہان والوں سے مراد جن و انس ہیں۔^(۱) (شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی) محمد علیہ السلام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔^(۲) (امام رازی رضی) سورہ احقر کی آیت نمبر ۳ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام جسمیے انسانوں کی طرف مبعوث تھے اسی طرح جنوں کی طرف بھی مبعوث تھے۔ مقائلہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو بھی جن و انس کی طرف مبعوث نہیں فرمایا۔^(۳) (شیخ عبدالرحمٰن بن ناصر الصدیق رضی) سورہ جن کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سے فوائد ہیں اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام انسانوں کی طرح جنات کے بھی پیغمبر ہیں۔^(۴) (سعودی مستقل فتویٰ کیمی) اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو جن و انس دونوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔^(۵) کویت کی وزارت اوقات کے شائع کردہ موسوعہ فقهیہ میں ہے کہ ”اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔“^(۶)

جنات کو بھی موت آتی ہے

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس حوالے سے چند آیات حسب ذیل ہیں:

- (۱) ﴿كُلُّ نَفِيسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران : ۱۸۵] ”ہر جان موت کو مچھٹے والی ہے۔“
- (۲) ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾ وَيَقِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ﴾ [الرحمن : ۲۶ - ۲۷] ”جو بھی زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں۔ صرف عظمت و عزت والی تیرے رب کی ذات ہی باقی رہے گی۔“ علاوہ ازیں ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کو موت آتی ہے، چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک دعا کے الفاظ یہ بھی تھے کہ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزْتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْأَنْسُسُ يَمُوتُونَ﴾ ”اے اللہ! میں تیری عزت کے ساتھ تیری پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جسے موت نہیں آتی، جبکہ جنوں اور انسانوں کو موت آتی ہے۔“^(۷)

-
- (۱) [تفسیر بعوی (۶۹۷/۶)]
 - (۲) [مجموع الفتاوى لابن تیمیہ (۳۲۱۹)]
 - (۳) [تفسیر الرازی (۶۸/۱۴)]
 - (۴) [ایسپر الرکیم الرحمن (۸۹/۱۱)]
 - (۵) [فتاویٰ اللجنۃ الدائمة (۳۷۰/۱۳)]
 - (۶) [الموسوعة الفقهیہ الکویتیہ (۹۳/۱۶)]
 - (۷) [بخاری (۷۳۸۳) کتاب التوحید : باب قول الله تعالیٰ ”وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“، مسلم (۲۷۱۷)]

الْفَلَقِيَّةُ مِنْ بَلَقِ الْجَنَّةِ آمِينَ حَقِيقَتُ اُورَاسِ الْعَالَمِ

کے بیان یہ یاد رہے کہ ابواب جن ”امین“ کو بہت سی حکومتوں کے تحت تا قیامت مہلت دی گئی ہے اس لیے اس کی زندگی قیامت تک ہے، قیامت سے پہلے اسے موت نہیں آئے گی۔

مومن جن جنت میں اور کافر جن جہنم میں جائیں گے

(1) ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿وَلَقَدْ ذَرَ أَنَا لِلْجَنَّةِ كَثِيرًا أَمِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الاعراف: ۱۷۹] ”اور یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت زیادہ تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔“

(2) ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرَرُوا رَشْدًا (۱۵) وَآمَّا الْقُسِطْطُونَ فَكَانُوا لِلْجَنَّةِ حَاطِّينَ (۱۶)﴾ [الجن: ۱۵-۱۶] ”(جنات نے کہا ہم میں) جو فرمانبردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے، ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔^(۱) شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جملتے ہیں کہ مسلمان جن جنت میں داخل ہوں گے۔^(۲)

(سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی) جنات اللہ کی ایک مخلوق ہیں، کتاب و سنت میں ان کا ذکر ہوا ہے اور وہ بھی مکلف ہیں۔ ان کے مومن جنت میں اور ان کے کافر جہنم میں جائیں گے۔^(۳)

کے بیان کسی کے ذہن میں اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ جنات تو خود آگ سے پیدا ہوئے ہیں پھر انہیں آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ تو اس کے بہت سے جوابات ہیں، جن میں سے زیادہ مناسب اور محضر جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود یہ ذکر فرمایا ہے کہ سرکش جنوں کو آتش جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو اس پر ہمارا کامل ایمان ہوتا چاہیے کہ انہیں عذاب ہوگا، البتہ اس عذاب کی صورت و کیفیت اور حقیقت کیا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی رکھا ہے اس لیے ہمیں بھی اس سلسلے میں خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے۔

جناٹ کی آمیزب زدگی اور اس کے اسباب

جنات کا انسانوں کو تکلیف پہنچانا

اگرچہ جن اور انسان دو الگ الگ مخلوقات ہیں... دوسری کی رہائش، خوراک اور دیگر ضروریات ایک دوسرے

(۱) تفسیر الحسن البیان (ص: ۱۶۴۰) (۲) اجموی الفتاوی لابن تیمیہ (۳۸۱۱۹)

(۳) فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (۲۸۲۱)

سے بکر مختلف ہیں اور دونوں کو اپنے تمام معاملات میں ایک دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی بعض اوقات انسانوں کی طرف سے جنوں کو کوئی تکلیف پہنچتی جاتی ہے اور ایسا اکثر علمی میں ہوتا ہے کیونکہ جنات انسانوں کو دکھانی نہیں دیتے۔ جبکہ بعض اوقات جنات بھی انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن وہ ایسا شعوری طور پر کرتے ہیں کیونکہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

جنات کا انسانوں کو تکلیف پہنچانا شریعت مطہرہ سے بھی ثابت ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک نوجوان کے گھر میں سانپ گھس آیا اور پھر دونوں میں لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔ بعد ازاں نبی کریم ﷺ نے وضاحت فرمائی کہ وہ سانپ دراصل شیطان تھا۔^(۱) اس کے مزید دلائل آگے آ رہے ہیں۔ تاہم یہاں اب تو بکر الجراحتی کا بیان کردہ آنکھوں دیکھا واقعہ ذکر کر دینا مناسب ہے تاکہ جنات کی طرف سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی مزید وضاحت ہو جائے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ

”یہ میری اپنی عزیز بہن سعدیہ کا دردناک سانحہ ہے۔ پہنچنے میں اس الیہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تب سے دل پر اس صدمہ کا داغ اٹھایا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک روز ہم چھوٹے چھوٹے بچے بھجوکی خشک لکڑیوں کا گھٹا بنا کر ایک رسی کی مدد سے مکان کی چھت پر اسے چڑھار ہے تھے۔ میری بہن سعدیہ جو عمر میں مجھ سے کچھ ہی بڑی تھی، چھت پر تھی اور اپر سے رسی کھینچ کر لکڑیاں ایک طرف رکھتی جاتی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ جب سعدیہ نے رسی کھینچی تو گھٹا بھاری ہونے کی وجہ سے اس سے کھینچانہ جاسکا۔ چنانچہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور گھٹا بھی نیچے گر گیا۔ سوئے اتفاق کہ گھٹا بھاگ رواہاں کوئی جن براجماں تھا اور یہ گھٹا نمیک اس کے اوپر گرا۔ جس سے اس کو تکلیف ہوئی لیکن اس خبیث نے نادانستگی کی اس اذیت کا بدله اس طرح لینا شروع کیا کہ رات کو جب میری بہن محو خواب ہوتی تو یہ آ کر اس کا نیند میں گلد باتا اور بے چاری بہن انتہائی کرب کے عالم میں ذبح کی گئی بکری کی طرح ترپ اٹھتی اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑتی اور جب تک ادھ موئی نہ ہو جاتی یہ ظالم جن اسے نہ چھوڑتا۔ ہفتہ میں کئی دن اس طرح بدلے رہا ہے۔ ہماری بہن کی زبانی اس ملعون جن نے اس کا اظہار بھی کیا کہ فلاں فلاں دن کی اذیت کا وہ اس طرح بدلے رہا ہے۔ ہماری بہن سعدیہ اس ایک روز کی معمولی خطا کی پارادش میں دس سال کے طویل عرصہ تک یہ کر بنا کر اذیت سنتی اور ہنخٹے عشرہ میں کئی کئی دن ایسا ہوتا کہ موت اس کے قریب آ کر لوٹ جاتی۔ آخر ایک روز جن نے اس کا گلا اس زور سے دبایا کہ اس کا سانس اکھڑ گیا۔ اس نے آخری بار زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑیں اور پھر اس کی روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ بال بال اس کی مغفرت فرمائے اور اپنی رحمت کے سامنے میں اسے جگدے۔ آمین۔“

(۱) [مسلم (۲۲۳۶) کتاب السلام : باب قتل الحیات وغیرها]

الْيَقِينُ مِنَ الْمُعْلَمَاتِ أَيْمَنُ الْمُعْلَمَاتِ

یہ اتفاق نقل کرنے کے بعد علامہ ابو مکار الجرازی خود فرماتے ہیں کہ ”یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ہمارے اپنے سروں پر پڑی ہوئی افداد ہے۔ اس کی صداقت کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ ہماری ان آنکھوں نے اسے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔“^(۱) معلوم ہوا کہ جنات انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور یہ بات شرعی دلائل کے علاوہ اہل علم کے مشاہدات و واقعات سے بھی ثابت ہے۔ یہ جنات انسانوں کو کن کن طریقوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کا بیان آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیے۔

جنات کے تکلیف پہنچانے کے طریقے

جنات انسانوں کو دو طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یا تو انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس پر کلی طور پر کنڑوں حاصل کر لیتے ہیں (ایسی کو آیب زدگی کہتے ہیں)، یا پھر انسانی جسم میں داخل ہوئے بغیر مختلف انداز سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات ذکر فرمائی ہے کہ جنات انسان پر یا تو اس طرح اڑانداز ہوتے ہیں کہ جسم انسانی میں داخل ہو کر اسے آیب زدہ بنادیتے ہیں یا پھر اسے دورے ڈال کر یا خوف و حشت میں بٹلا کر کے (غرض مختلف طریقوں سے) تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔^(۲) ان دونوں طریقوں کی کچھ فصیل حسب ذیل ہے۔

چھٹے بغیر انسانوں کو تنگ کرنا

یعنی اس صورت میں جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہوتے لیکن مختلف طریقوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کسی کا گلہ دبادینا، کھانے میں غلاظت ڈال دینا، چولہے سے ہٹلایا گردینا، میان بیوی میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کی لڑائی کر دینا، گھر کی کوئی تیقینی چیز غائب کر دینا اور بے خوابی کی کیفیت پیدا کر دینا وغیرہ۔ مزید جنات کے تنگ کرنے کے چند مخصوص طریقے حسب ذیل ہیں:

○ ذراونہ خواب دلانا:

جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ : مِنْهَا أَهَوِيْلُ مَنَ الشَّيْطَانُ لِيُحْزِنَ بِهَا أَبْنَ آدَمَ ...﴾ ”خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک قسم وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہولناکیوں پر مشتمل ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اولاد آدم کو غلکیں کرے۔“^(۳) ایک دوسری روایت میں خواب کی ایک قسم یہ بھی مذکور ہے ﴿وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ ”اوڑخویف (ڈرانا)“ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔^(۴) امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ایسے خواب آئیں جو

(۱) [عقيدة المؤمن (ص: ۲۲۹-۲۳۰)] (۲) [مجموع الفتاوى لابن عثيمين (۱۵۷۱)]

(۳) [صحیح البخاری (۱۸۷۰)، ابن ماجہ (۳۹۰۷)] (۴) [صحیح البخاری (۱۳۴۱)، ابن ماجہ (۳۹۰۶)]

اے غم زدہ اور پریشان کر دیں۔^(۱)

○ نومولود کو اذیت دینا:

فرمان نبوی ہے کہ ﴿مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مُولُودٌ إِلَّا يَمْسُهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُوْلُدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسْ الشَّيْطَانِ﴾ ”ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوٹا ہے اور پھر شیطان کے چھونے کی وجہ سے زور سے چختا ہے۔^(۲)

○ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کر دینا:-

جیسا کہ حضرت حمزة بنت جحش رض کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے استحاضہ کے متعلق فرمایا کہ ﴿إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ ”یہ تو محض شیطان کا ایک چوکہ ہے۔“^(۳) استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو ایام ماہواری کے علاوہ کسی رنگ کے پھٹ جانے کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے۔

○ طاعون میں مبتلا کرنا:

فرمان نبوی ہے کہ ﴿الطَّاعُونُ وَخُرُوجُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَهُوَ لَكُمْ شَهَادَةٌ﴾ ”طاعون کی بیماری جنوں میں سے تہارے دشمنوں کے نیزے کا رخم ہے اور یہ تہارے لیے شہادت ہے۔^(۴)

○ مختلف امراض میں مبتلا کرنا:

جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت ایوب عليه السلام کی بیماری کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ ص میں ہے کہ ایوب عليه السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا ﴿أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ﴾ [ص : ۴۱] ”مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔“

واضح رہے کہ دراصل ہر بیماری اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے لیکن شیطان بعض اوقات کسی بیماری میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے مثلاً بعض اوقات شیطانی وسوسے کے باعث انسان کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

○ کچھ چراکر لے جانا:

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رض سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں صدقہ فطر کی حفاظت

(۱) [فیض القدیر (۶۰/۴)]

(۲) [بخاری (۳۴۳۱) کتاب احادیث الانبیاء: باب قول الله تعالى: وادذكر في الكتاب مريم]

(۳) [حسن: صحيح ابو داود، ابو داود (۲۸۷) کتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحية تدع الصلاة، ترمذی (۱۲۸) ابن ماجہ (۶۲۷) حاکم (۱۷۷) دارقطنی (۲۱۴/۱) احمد (۴۳۹/۶)]

(۴) [صحیح: صحیح الجامع الصغیر (۳۹۵۱) الصحیحة (۱۹۲۸) طبرانی او سط (۵۶۶)]

کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ شیطان وہاں سے روزانہ اتنا ج چرانے کی کوشش کرتا مگر ابو ہریرہ رض سے بکڑ لیتے۔ بالآخر شیطان آپ رض کو ایک دعا سکھا گیا۔^(۱)

چمٹ کر انہوں کو نگ کرنا

جنت کی طرف سے انہوں کو تکلیف پہنچانے کی یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں انسان کا عقل و شعور ہی باقی نہیں رہتا، وہ کیا کہہ رہا ہے اسے کچھ علم نہیں ہوتا، اس پر پاکل پن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے عربی میں مست یا الصرع کہا جاتا ہے۔ جس شخص پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اسے المتصروع کہا جاتا ہے۔ اردو میں اسے آسیب زدگی، جن زدگی یا جن کا چٹنا کہتے ہیں۔ اس قسم کا جنتی دورہ دراصل مرگی کے دورے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے (جنتی) مرگی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو انسان کے اعضاً ریسم کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔^(۲) مرگی کا دورہ مختلف طبی و جوہات کی بنا پر پڑتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے دورے کے پیچھے طبی و جوہات ہی ہوں بلکہ بعض اوقات یہ دورہ جنتی اثرات کی وجہ سے بھی پڑتا ہے۔ انہوں کو جن چمنے کے حوالے سے چند دلائل حسب ذیل ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔

○ قرآن کریم سے ثبوت:

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿الَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّبُوًا لَيَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَغَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُتَّسِّرِ﴾ [البقرة: ۲۷۵] ”جو لوگ سودھاتے ہیں وہ (روز قیامت) اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنادیا ہو۔“

اس آیت میں جو یہ مذکور ہے کہ ”شیطان نے چھو کر دیوانہ بنادیا ہو“ اسی کا نام اردو میں آسیب زدگی یا جن کا چمنا ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رض اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ ”اس سے مراد یہ ہے کہ وہ (سودخور) قیامت کے روز قبروں سے اس طرح انہیں گے جیسا کہ آسیب زدہ حالت آسیب میں انھتا ہے کہ جن نے اسے پٹ کر دیوانہ بنارکھا ہوتا ہے۔“^(۳) امام بغوی رض نے بھی ”شیطان کے چھو کر دیوانہ بنادینے“ کی تفسیر انہی الفاظ میں کی ہے کہ جیسے اسے جن چمنا ہوا ہو۔^(۴) امام قرطی رض رقمطراز میں کہ

((فِيْ هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ الصَّرْعَ مِنْ جِهَةِ الْجِنِّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ

(۱) [بخاری (۲۲۱۱)، (۳۲۷۵)، (۵۰۱۰)] کتاب الوکالة: باب اذا وکل رجل افرنك الوکيل شيئاً

(۲) [فتح البیاری (۱۱۴/۱۰)] [تفسیر ابن کثیر (۷۰۸/۱)]

(۳) [معانی التنزیل (۳۴۰/۱)]

فِعْلُ الطَّبَائِعِ وَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْلُكُ فِي الْإِنْسَانِ وَلَا يَكُونُ مِنْهُ مَسٌّ) ”یہ آیت ان لوگوں کے موقف کے غلط ہونے کا ثبوت ہے جو جنات کے ذریعے آسیب زدگی کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی یہ مانتے ہیں کہ شیطان انسان میں (داخل ہو کر خون کی طرح) گردش کرتا ہے اور وہ انسان کو چھٹ سکتا ہے، بلکہ وہ اس حالت کو محض ایک طبعی مرض قرار دیتے ہیں۔“^(۱)

○ احادیث نبویہ سے ثبوت:

(۱) فرمان نبوی ہے کہ ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ﴾ ” بلاشبہ شیطان انسان میں خون کی طرح درختا ہے۔“^(۲)

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقش فرمایا ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک تو ظاہری مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی قدرت و طاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسان کے اندر خون کی طرح گردش کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ بات محض استعارۃ ذکر کی گئی ہے کیونکہ شیطان انسان کو بہت زیادہ بہکانے اور وساوس میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور یوں وہ انسان سے اسی طرح جدا نہیں ہوتا جیسے خون جدا نہیں ہوتا (اسی لیے اس کے کثرت سے بہکانے کو خون کی گردش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے)۔^(۳)

واضح رہے کہ جنات کے انسانی جسم میں داخل ہونے اور خون کی طرح گردش کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی چیز دوسری چیز میں جذب ہو کر اسی کا حصہ بن جائے مثلاً کرنٹ کا بجلی کی تاروں میں جذب ہونا، پانی کا کپڑے میں جذب ہونا، معنہ طیسی کشش کا مقننا طیس میں جذب ہونا، اسی طرح آج کل کمپیوٹر استعمال کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ ایک وینڈو (Window) انشال کرنے کے بعد اگر اسے اپ گریڈ کیا جائے تو پہلی وینڈو دوسری وینڈو میں ہی جذب ہو جاتی ہے، دونوں کا الگ نہیں بلکہ ایک ہی وجود ہوتا ہے۔ لیعنہ جن بھی انسانی جسم میں داخل ہو کر اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد بطور غاص دماغ کا رخ کرتے ہیں اور اکثر تو دماغ میں ہی رجتے ہیں کیونکہ دماغ پر کنٹروں کے بعد انسانی جسم کے کسی بھی عضو پر انسانی کنٹروں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(۲) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿إِذَا تَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يُمْسِكْ بِيَدِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ﴾ ”جب تم میں سے کوئی جماں لے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے کیونکہ شیطان (مثہ

(۱) [الجامع لأحكام القرآن (۲۵۵/۳)]

(۲) [بخاری (۲۰۳۸) کتاب الاعتكاف: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، ابو داود (۲۴۷۰)]

(۳) [حواشی على صحيح مسلم (۱۹۳/۵)]

میں) داخل ہو جاتا ہے۔^(۱)

حافظ ابن حجر عسکر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہاں داخلے سے شیطان کا حقیقی طور پر داخل ہونا ہی مراد لیا گیا ہو اور شیطان اگرچہ خون کی طرح انسانی جسم میں گردش کرتا ہے لیکن جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو تک اسے انسان پر قدرت حاصل نہیں ہوتی لیکن (یہ بھی حقیقت ہے کہ) جب انسان جماں لے رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں وہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوتا تو شیطان اس پر قدرت حاصل کر لیتا ہے اور حقیقی طور پر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔^(۲) علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان جماں لینے کے لیے منہ کھولتا ہے تو شیطان اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔^(۳) شیخ عبد المحسن العباد فرماتے ہیں کہ یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ شیطان ابن آدم (کے جسم) میں خون کی طرح گردش کرتا ہے (لہذا) جب وہ جماں لینے کے لیے منہ کھولتا ہے اور اسے ہاتھ کے ساتھ نہیں روکتا تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔^(۴)

(3) عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عہد رسالت میں ایک عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ جب وہ نبی ﷺ کے پاس دعا کے لیے آئی تو آپ ﷺ نے اسے صبر کی تلقین کی۔ چنانچہ اس نے صبر کا ہی راستہ اپنالیا جس کے بد لے میں اسے جنت کا وعدہ دیا گیا۔ البته اس نے یہ درخواست کی کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، آپ دعا کیجیے کہ میرے کپڑے نہ اتریں، چنانچہ آپ ﷺ نے یہ دعا فرمادی۔^(۵)

حافظ ابن حجر عسکر کی توضیح کے مطابق اس عورت کو دورہ پڑنے کا سبب جن کا حملہ تھا۔^(۶) ایک دوسری روایت میں تو یہوضاحت بھی موجود ہے کہ اس عورت نے جب دعا کی درخواست کی تو عرض کی ہے اُنہیں آخاف الخَيْثَ أَنْ يُجَرَّدَنِي^(۷) ”مجھے اس غبیث (جن) سے خدا شہ ہے کہ وہ مجھے برہنہ کر دے گا۔“

(4) حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ بَعْرُضُ ... مَا أَحَسِبْهُ خَالَطَبِيْ بَعْدُ ”جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے طائف کا گورنمنٹر کر کے بھیجا تو مجھے یوں لگتا کہ نماز میں کوئی چیز میرے سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ علم نہیں رہتا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ جب میں نے یہ چیز محسوس کی تو میں نے رسول اللہ ﷺ کی طرف رخت سفر باندھا۔ آپ ﷺ نے مجھے دیکھ کر کہا، یہ ابو العاص کا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا، تجھے واپس کون سی چیز لائی ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول! نمازوں میں کوئی چیز میرے سامنے آجائی ہے اور

(۱) [مسلم (۲۹۹۵) کتاب الرهد] (۲) [فتح الباری (۱۰/۶۱۲)]

(۳) [فیض القدیر (۱۱/۴۰)] (۴) [شرح سنن ابی داود (۲۸/۴۳۷)]

(۵) [بخاری (۲۵۶۵) کتاب المرتضی: باب فضل من يصرع من الريح، مسلم (۲۵۷۶) احمد (۴۰/۳۲۴)]

(۶) [فتح الباری (۱۰/۱۱۵)] (۷) [مسند بزار (۷۳/۵۰)]

مجھے یہ علم نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا، یہ شیطان ہے، ذرا قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب ہو کر اپنے بچوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ میرے سینے پر ضرب لگائی اور (دم کر کے) میرے منہ پر تھوکا اور فرمایا ﴿اُخْرُجْ عَدُوَ اللَّهِ﴾ ”اے اللہ کے دشمن! نکل جا۔“ آپ نے تین بار ایسا کیا۔ پھر فرمایا کہ جاؤ اپنی ذمہ داری انجام دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے یہ شکایت نہ رہی۔“^(۱)

(5) حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک عورت آئی، جس کے ساتھ اس کا کم سن بچہ بھی تھا، اس نے عرض کیا کہ میرے اس بچے پر سات سال سے بلااء نے حملہ کر رکھا ہے، وہ اسے روزانہ دو مرتبہ پکڑ لیتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اس بچے کو میرے قریب کرو، اس نے بچہ قریب کیا تو ﴿فَتَسْفَلَ فِيْ فِيهِ وَقَالَ :اُخْرُجْ عَدُوَ اللَّهِ آتَا رَسُولُ اللَّهِ﴾ ”آپ ﷺ نے (دم کر کے) اس کے منہ میں تھوکا اور فرمایا اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔“ پھر آپ ﷺ نے اس عورت کو کہا کہ جب ہم واپس لوٹیں گے تو ہمیں اس کے متعلق بتلانا۔ چنانچہ جب رسول اللہ ﷺ واپس لوٹے تو بچے کے متعلق دریافت کیا۔ اس پر عورت نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے! جب سے آپ ہم سے جدا ہوئے ہیں تب سے اب تک ہم نے اس پر کوئی چیز محسوس نہیں کی۔^(۲)

یہ تمام روایات اس بات کا ثبوت ہیں کہ جنات کا انسانی جسم میں داخل ہونا ایک حقیقت ہے۔ اور پھر نبی ﷺ کا علاج کر کے انہیں بھگانا بھی مسنون عمل ہے۔ مزید اس کی تائید کے لیے کبار اہل علم کی چند آراء اور اقوال حسب ذیل ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔

○ اہل علم کے اقوال و مشاهدات سے ثبوت:

(عمرو بن عبید الرحمن) جو شخص انسانی جسم میں جنون کے داخل ہونے کا انکار کرتا ہے وہ دہری ہے۔^(۳)

(ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ) جب شیطان انسان کو چھوٹا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر دیوانگی مسلط ہو جاتی ہے۔^(۴)

(امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ) امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جن آسیب زدہ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ((یا بُنَىٰ يَكْذِبُونَ هَذَا يَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِهِ)) ”اے میرے بیٹے وہ جھوٹ کہتے ہیں (درحقیقت) یہ جن ہی ہوتا

(۱) [صحیح: صحيح ابن ماجہ، ابن ماجہ، (۴۸۴۵) جامع الاصول (۶/۴۶)]

(۲) [صحیح: السلسلة الصحيحة (۴۸۵)، مسند احمد (۱۴۲۰)، مستدرک حاکم (۲/۱۷۲)، امام حاکم] نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ امام منذری فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے۔ [الترغیب والترہیب (۳/۱۵۸)]

(۳) [کمامی اکام المرجان (ص: ۹۰)]

(۴) [الفصل فی الملل والنحل (۱۵/۱۰)]

ہے جو انسان کی زبان سے کلام کرتا ہے۔^(۱)

ابو الحسن علی بن احمد بن علی عسکری رض کے دادا کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رض کی مسجد میں بیٹھا تھا۔ ان کے پاس متوكل (بادشاہ) نے اپنا ایک وزیر بھیجا کہ وہ آپ کو اطلاع دے کہ اس کی بیٹی کو جنات کا اثر ہے لہذا آپ اس کے لیے صحت کی دعا کریں۔ تو امام احمد بن حنبل رض نے اس شخص کو اپنی لڑکی کی دو کھڑائیں (جو تیار) دیں اور فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور اس لڑکی کے سر کے پاس بیٹھو اور اس (جن) کو کہو کہ امام احمد فرم رہے ہیں تمہیں اس جن سے نکل جانا پسند ہے یا اس (احمد) سے ستر جوتے کھانا پسند ہے؟ تو وہ وزیر اس جن کے پاس گیا اور اسے یہ پیغام سنایا تو اس جن نے اسے لڑکی کی زبان سے کہا کہ ہم نہیں گے اور اطاعت کریں گے، اگر امام احمد رض میں عراق چھوڑنے کا حکم دیں تو ہم عراق ہی چھوڑ دیں گے، وہ تو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں اور جو اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے ساری مخلوق اس کی فرمانبرداری کرتی ہے۔ پھر وہ اس لڑکی سے نکل گیا اور لڑکی تندرست ہو گئی اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔

جب امام احمد رض کا انتقال ہوا تو وہ سرکش جن دوبارہ اس لڑکی کے پاس آگیا تو متوكل بادشاہ نے اپنے وزیر کو امام احمد رض کے شاگرد ابو بکر مروزی رض کے پاس بھیجا اور سارا واقعہ سنایا تو امام مروزی رض نے جو تیاری اور لڑکی کی طرف چل دیئے تو اس سرکش جن نے لڑکی کی زبانی کیا میں اس لڑکی سے نہیں نکلوں گا، میں تیری بات نہیں مانوں گا، امام احمد بن حنبل رض تو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے ہم نے تو ان کی فرمانبرداری کی وجہ سے ان کا حکم مانا تھا۔^(۲)

(شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ ((دُخُولُ الْجِنَّةِ فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ ثَابِتٌ بِالْفَقَاقِ أَئِمَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ...)) "اَئُلُّهُمَّ انْتَ وَالْجَمَاعَةُ كَمَا اَنْتُمْ بِالْجَمَاعَةِ ..."

ہونا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

﴿أَلَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّبُّو لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُمُ الَّذِي يَتَعَجَّلُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَيْتِ﴾ [البقرة : ۲۷۵] "جو لوگ سودھاتے ہیں وہ (روز قیامت) اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھوکر دیوانہ بنادیا ہو۔" اور صحیح بخاری میں نبی ﷺ کا یہ فرمان مذکور ہے کہ "شیطان انسانی جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔"^(۳)

(۱) [کما فی مجموع الفتاوی لابن تیمیہ (۲۷۷/۲۴)]

(۲) [لقط المرجحان فی حکماں الحجّان (اردو)، (ص: ۱۸۶-۱۸۵)]

(۳) [مجموع الفتاوی لابن تیمیہ (۲۷۷/۲۴)]

آیت کی تحقیق اور اس کا علاج

الْوَلِيُّ الْمُتَّقِىٰ مِنَ الْمُنَاطِقِ

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ (ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ) کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ وہ اپنا کوئی نہ آندہ جن رودہ کے پاس بھیجتے جو اس میں موجود جن کو مخاطب کر کے کہتا کہ شیخ کا کہنا ہے کہ اس سے نکل جا، اس میں داخل ہو کر اسے نگ کرنا تیرے لیے حلال نہیں۔ چنانچہ جن یہ پیغام سن کر ہی چلا جاتا اور مریض تدرست ہو جاتا۔ بعض اوقات شیخ جنات سے خود بھی مخاطب ہوتے تھے اور کبھی تو وہ جن ایسا شریر ہوتا کہ اسے مار پیٹ کر ہی نکلا جاتا، اس سے مریض تدرست ہو جاتا لیکن اسے مار پیٹ کا احساس بھی نہ ہوتا۔ ہم (تمام حلامہ) اور دیگر بہت سے لوگوں نے شیخ بزرگ کے ایسے کئی واقعات دیکھے ہیں۔ شیخ بزرگ علاج کے وقت مریض کے کان میں یہ آیت اکثر پڑھا کرتے تھے:

﴿أَتَحِسِّنُتُمْ أَنَّمَا أَخْلَقْنَكُمْ عَبَّاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المومنون: ۱۱۵]

تم نے یہ مگان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یونہی بے کار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔

امام ابن قیم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتب شیخ (ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ) نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ آیت جن زدہ کے کان میں پڑھی تو جن نے بڑی اونچی آواز میں جواب دیا کہ ہاں! ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ سن کر شیخ نے چھپڑی پکڑ کر اس کی گردن کی گروں میں مارنا شروع کر دیا تھی کہ مار مار کر شیخ کے ہاتھ تھک گئے اور لوگوں کو یہ خدا شلاحی ہوا کہ کہیں اس قدر شدید مار سے مریض ہی ہلاک نہ ہو جائے۔ اس وقت جن بولا کر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ وہ تو تجوہ سے محبت نہیں کرتا۔ جن نے کہا میں اسے حج کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا یہ تمہارے سامنے حج بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تب جن نے کہا کہ میں آپ کی عزت و تکریم اور بزرگی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اسے چھوڑ۔ جن نے یہ بات مان لی اور کہا کہ میں اسے چھوڑتا ہوں اور باہر نکل گیا۔ پھر وہ مریض اسٹھ کر بیٹھ گیا اور داکیں باکیں دیکھنے لگا اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے کیا ہوا تھا، شیخ کو کیوں بلا یا گیا ہے؟ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا پھر شیخ مجھے کیوں مارنے لگے ہیں؟ حالانکہ اسے علم ہی نہیں تھا کہ اسے تو مار پڑ چکی ہے۔

امام ابن قیم رضی اللہ عنہ نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ہمارے شیخ آسیب زدگی کے علاج کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آسیب زدہ اور اس کے معانج کو بکثرت یا آیت پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ اس آیت کے ساتھ مزید موعذین (الفلق، الناس) سورتیں پڑھنے کا بھی حکم دیتے تھے۔^(۱)

(ابن قیم رضی اللہ عنہ) انہوں نے اپنی معروف کتاب ”زاد العاد“ میں آسیب زدگی کے علاج کے عنوان سے ایک فصل قائم کی ہے اور پھر اس میں سنت نبوی، اطباء کی تحقیق اور حس و مشاہدہ سے استدلال کرتے ہوئے جنات کے

(۱) راطب النبوی لابن القیم (ص: ۶۸-۶۹)

انسانوں کو چمنے کے متعلق گفتگو کی ہے۔^(۱)

(ابن حجر العسکر) آسیب زده انسان میں جن کی موجودگی کے بہت زیادہ دلائل ہیں۔^(۲)

(علامہ آلوی، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ) اسی کے قائل ہیں۔^(۳)

(سابق مفتی اعظم سعودی، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ) جنات کے انسانی جسم میں داخل ہونے کے متعلق اپنے ایک تفصیلی فتوے میں کتاب و سنت کے دلائل اور سلف صالحین کی آراء ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ”جنات کے انسانی جسم میں داخل ہونے کے جواز کے متعلق پیچھے ہم نے جو شرعی دلائل اور اہل السنہ والجماعہ کے اہل علم کا اجماع نقل فرمایا ہے اس سے قارئین کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو اس چیز (یعنی جنات کے انسانی جسم میں داخل ہونے) کا انکار کرتے ہیں۔^(۴)

(شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ) کتاب و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات انسانوں میں داخل ہو جاتے ہیں... اور اہل السنہ کا بھی یہی موقف ہے کہ جن آسیب زدہ کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے۔^(۵)

(شیخ صالح الفوزان) انسانی جسم میں جن کے داخلے کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا البتہ یہ اس کی غلطی ضرور ہے اور یہ ان تمام شرعی دلائل کو جھلانے کے مترادف ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔^(۶)

(شیخ وحید بن عبدالسلام بابی) اپنے تجربات و مشاہدات بیان کرتے ہوئے رقطراز ہیں کہ

ایک خاتون نے بتا کا کہ اسے ٹانگ میں شدید درد محسوس ہوتا ہے، میں نے کہا شاید اسے کوئی جسمانی بیماری ہوگی، لیکن چونکہ وہ بکشکل چل سکتی تھی، اس لیے میں نے اس پر دم کرنا شروع کیا۔ ابھی اس نے سورہ فاتحہ کو ہی سنا تھا کہ اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا اور اس کی زبان سے جن بولنے لگ گیا اور اس نے بتایا کہ وہی ہے جس نے اس کی ٹانگ پکڑ کر ہے۔ سو میں نے اسے نکل جانے کا حکم دیا، وہ نکل گیا تو عورت اپنے فطری انداز سے چلنے کے قابل ہو گئی۔ والحمد لله رب العالمین۔

ایک دوسرا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان مرض کی حالت میں میرے پاس آیا، میں نے اس پر قرآن مجید کو پڑھا تو اس کی زبان پر جن بولنے لگ گیا اور اس نے بتایا کہ فلاں جادوگر نے اس نوجوان پر جادو کرنے کے لیے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور اس پر جادو کیا گیا ہے وہ اس کے گھر کی دلیزی میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ نکل گیا، پھر اس کے گھروالے گھر میں گئے اور گھر کی دلیزی کو ہودا تو واقعتاً ہاں

(۱) [زاد المعاد (۳) ۱۷۷-۱۸۱] (۲) [بذل الطاعون في فضل الطاعون (ص: ۸۳)]

(۳) [روح المعانی (۳) المواهب اللذنية بالمنع الحمدية (۳) ۴۴۹-۴۴۸]

(۴) [مجموع الفتاوى لابن باز (۳۰۷/۳)] (۵) [فتاویٰ اسلامیہ (۶۳۹/۴)]

(۶) [المتنقى في فتاوى الفوزان: المجلد الاول : الجن والصراع وعلاجه]

پر کچھ کاغذات ملے جن پر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ کاغذات پانی میں بھگو دیئے، جس سے اس پر کیا گیا جادو توٹ گیا۔^(۱)

آسیب زدگی کے چند اسباب

بالعموم جن و جو باتیں کی بنا پر انسان آسیب زدگی کا شکار ہوتا ہے، وہ یہ ہیں:

○ ذاتی گناہوں کی شامت:

اہل علم کا کہتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے کاموں سے غفلت والا پرواہی اور شب و روز گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے آسیب زدگی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے سزا کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فِيمَا كَسْبَتُ أَيْدِينِكُمْ﴾ [الشوری : ۳۰] "اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی کا بدل ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا (یعنی جو تم نے بد اعمالیاں کیں)۔"

ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيْضُ لَهُ شَيْطَنًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف : ۳۶] "اور جو شخص رحمن کی یاد سے غفلت کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔"

(این قیم جذب) اکثر ویژت جنات ایسے لوگوں پر ہی غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جن کی دین سے واقفیت کم ہوتی ہے اور جن کی زبان میں اور دل اللہ کی یاد، اللہ کی پناہ پکڑنے، ہبھی اذکار و وظائف اور دیگر حفاظتی تدابیر سے لائق ہوتے ہیں۔ گویا خوبیت جنات ایسے آدمی پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں جو (مسنون اذکار و وظائف کو ترک کر کے) غیر مسلک ہو چکا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر جن اوقات میں انسان ایسی حفاظتی تدابیر سے تھی دامن ہوتا ہے انہی اوقات میں جنات اس پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔^(۲)

○ عشق و حوس:

یعنی بعض اوقات جنات انسانی عورتوں پر یا چڑیلیں انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان میں داخل ہو جاتی ہیں۔

○ انتقامی جذبہ:

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاعنی میں انسانوں کے ہاتھوں جنات کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ

(۱) [جادو کا علاج، اردو ترجمہ "الصارم البتارفی التصدی للسحرۃ الاشرار" (ص: ۱۲۷، ۱۲۹)]

(۲) [زاد المعاد لابن القیم (۶۹/۴)]

اس کا بدلہ لینے کے لیے انسانوں کو چھٹ جاتے ہیں۔

○ بلا وجہ شرارت:

اور بعض اوقات جناتِ محض دل لگی اور شرارت کی غرض سے ہی انسانوں کو ٹنگ کرتے ہیں۔ درج بالاتینوں وجوہات کے متعلق شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”انسانوں پر جنات کی آسیب زدگی بعض اوقات عشق اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں میں سے کوئی کسی دوسرا کام عاشق ہو جاتا ہے (ایسا طرح جن بھی کسی مرد یا عورت کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے) ... اکثر ویژہتر جنات کے چھٹنے کا سبب جنوں کا بدلہ لینے کا جذبہ بھی بتاتا ہے۔ ایسا اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں کسی انسان سے (لاملی میں) تکلیف پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا قصد اکیا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی جن پر پیشتاب کر دیتا ہے، یا اس پر گرم پانی ڈال دیتا ہے یا کسی کو قتل کر بیٹھاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا لیکن چونکہ جنوں میں جہالت کے ساتھ ساتھ ظلم کی روشن بھی عام ہے اس لیے وہ اس انسان کو بہت سخت سزاد یا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنوں کی طرف سے شرارت بلا وجہ ہوتی ہے جیسا کہ انسانوں میں بھی بعض بے وقوف لوگ بلا وجہی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔^(۱)

○ جادو:

بعض اوقات آسیب زدگی کا سبب جادو بھی ہوتا ہے۔ یعنی جادوگر کسی کے کہنے پر اپنے جادوی عملیات کے ذریعے کسی خاص شخص کو ٹنگ کرنے کے لیے جن کھجھ دیتا ہے۔ وہ جن اس شخص میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر گاہ ہے گاہے اسے ٹنگ کرتا رہتا ہے، کبھی اس پر دیوالی کی کیفیت پیدا کر کے اور کبھی اسے مختلف قسم کے دروں میں متلاکر کے۔ یہ بات مختلف اہل علم کے تجربات سے ثابت ہو چکی ہے جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ جب معانعِ جن کو حاضر کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں جادوگر نے بھیجا ہے۔

آسیب زدگی کے خاص حالات

اہل علم کا کہنا ہے کہ ہر وقت جن کو انسان پر غلبہ پانے یا اسے چھٹنے کی طاقت نہیں ہوتی بلکہ انسان خود بعض اوقات اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ جن کو اس پر مسلط ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسی چند انسانی کمزوریاں اور خاص حالات حسب ذیل ہیں:

- سخت غصہ کی حالت۔
- سخت خوف کی حالت۔
- سخت غفلت کی حالت۔
- انتہائی خوشی کی حالت۔

(۱) [مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ (۱۹/۲۹-۴۰)]

آیت کی حقیقت اور اس کا علاج

○ حرام طریقے سے شہوت رانی کی حالت۔ ○ عمدًا لاشعوری طور پر جنات کو تکلیف پہنچانے کی حالت۔

ایک ضروری وضاحت

کچھ لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر جن چمنے کی کوئی حقیقت ہے تو یہ کسی کافر کو کیوں نہیں چمٹتے، صرف مسلمانوں کو ہی کیوں چمٹتے ہیں؟ اہل علم اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے کیونکہ جنات کفار پر بھی مسلط ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض آیات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات چمٹتے ہی کفار و مشرکین کو ہیں۔^(۱) مزید برآں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ غیر مسلم اطباء بھی شریروں جنات کی وجہ سے مرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔^(۲)

جنات سے بچاؤ کی پیشگوئی احتیاطی تغایر

ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کرنا

یعنی زبان کو بیمیش اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے الغرض ہر کام کرتے ہوئے مسنون اذکار و دُخال کو زبان پر جاری رکھنا جنات کے حملوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آتَقُوا إِذَا حَسَّهُمْ طِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُتَعَزِّزُونَ﴾ [الاعراف: ۲۰۱] ”یقیناً جو لوگ پر ہیز گار ہیں جب ان کو کوئی شیطان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ذکر میں لگ جاتے ہیں اور وہ فوراً بکھ جاتے ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبدالرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ قطر از ہیں کہ ”جب کوئی متقد شخص شیطانی وسو سے کو محوس کر لیتا ہے اور وہ کسی فعل واجب کو ترک کر کے یا کسی فعل حرام کا ارتکاب کر کے گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً اسے حنیفہ ہو جاتی ہے، وہ غور کرتا ہے کہ شیطان کہاں سے حملہ آور ہوا ہے اور کون سے دروازے سے داخل ہوا ہے۔ وہ ان تمام لوازم ایمان کو یاد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب قرار دیئے ہیں تو اسے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اور جو اس سے کوتا ہی واقع ہوئی ہے، تو باہر نیکیوں کی کثرت کے ذریعے سے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس وہ شیطان کو ذلیل ورسا کر کے دھنکا رہتا ہے اور شیطان نے اس سے جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے، اس پر پانی پھیردیتا ہے۔^(۳)

نبی ﷺ کا بھی بھی معمول تھا کہ آپ ہمہ وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ علیہ السلام کا بیان

(۱) النحل: ۱۰۰۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

(۲) الطہب السبوی لابن القیم (ص: ۱۹۱) | (۳) تفسیر السعدی (اردو) (۹۶۴/۱)

ہے کہ ﴿کَانَ النَّبِيُّ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ﴾ نبی ﷺ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔^(۱)
 علامہ عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ہر وقت ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ باوضو،
 بے وضو، جبکہ، کھڑے، بیٹھے، لیئے اور چلتے ہوئے غرض ہر حالت میں ذکر میں مصروف رہتے۔^(۲) اور امام
 نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات ذہن نشین ہنسی چاہیے کہ قضاۓ حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے یا ہم بستری
 کے دوران ذکر کرنا مکروہ ہے، لہذا اس حدیث کو ان کے علاوہ دیگر احوال پر محول کیا جائے گا۔^(۳) حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے کہ خواہ انسان بے وضو ہو یا حالتِ جنابت میں ذکر کر سکتا ہے۔^(۴)

جنات و شیاطین سے پناہ مانگنے رہنا

قرآن کریم میں شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تغیب دلائی گئی ہے۔ بطور خاص اس وقت جب انسان کو
 شیطانی وسو سے یا جنتی حملہ کا کوئی خطرہ محسوس ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
 ﴿وَإِنَّمَا يَنْزَغُنَّكُمُ الشَّيْطَنُ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [سورة الحجۃ: ۳۶] اور اگر شیطان کی
 طرف سے کوئی وسوساً آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔

اسی طرح ایک اور آیت میں ہے کہ ﴿فَإِذَا قَرِأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ﴾
 [آلہ النحل: ۹۸] اور جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔

شیطان مردود سے پناہ مانگنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں یہ کلمات سکھائے ہیں:
 ﴿رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيْطَنُ﴾^(۵) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ^(۶) [المومنون: ۹۸-۹۷]
 ”(اور یوں کہا کرو کہ) اے میرے پروردگار! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
 اور اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجائیں۔“

اور کچھ کلمات ایسے ہیں جن کا مختلف احادیث میں ذکر ہے، ان کا مختصر بیان حسب ذیل ہے:
 ۱- ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزَةٍ وَنَفْخَةٍ وَنَفِثَةٍ﴾ ”میں اللہ
 کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی پھونک، اس کے تھوک اور اس کے چوکے سے۔“^(۷)

۲- ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ﴾ ”اللہ تعالیٰ کے

(۱) [مسلم (۳۷۳) کتاب الحجۃ: باب ذکر اللہ تعالیٰ فی حال الجنابة، بخاری تعلیقاً (۳۰۵/۱)]

(۲) [تحفة الاحوذی (۲۳۰/۹)] (۳) [شرح مسلم للنووی (۶۸/۴)]

(۴) افتح الباری لابن رجب (۴۲۶/۱)]

(۵) [صحیح: صحیح ابو داؤد (۷۰/۱) کتاب الصلاۃ: باب من رأی الاستفتاح بسبحانك اللہم، ابو داؤد

(۶) [ترمذی (۷۷۵) ابین ماجہ (۴/۲۴۲) ابین ماجہ (۴/۸۰) مسند احمد (۳۰/۲)]

پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور زہر میں ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔”^(۱)

3- ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عَبَادِهِ وَمِنْ حَمَّاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ﴾ ”میں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، اس کے غصب سے اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے دسوے سے اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔”^(۲)

4- ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَوِّزُهُنَّ بِرُّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَقَدَّأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَّ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ظَارِقٍ إِلَّا ظَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَ حَمْنَ﴾ ”میں اللہ تعالیٰ کے ان مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے نتوکوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بد اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، پھیلایا اور جسم دیا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا اور اس چیز کے شر سے جو اس سے لٹکتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر لے کر آئے اے انتہائی مہربان اے۔”^(۳)

درج بالامسنون کلمات یاد کرنے اور انہیں اکثر اوقات پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ کلمات یاد نہ ہو سکیں تو کم از کم یہ سادہ الفاظ ہی پڑھ لینے چاہیں ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ”میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔“

جیسا کہ حضرت ابو رداء رض کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم نے آپ سے سن آپ فرمائے تھے کہ ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ الْعَنْكَ بِلَغْنَةِ اللَّهِ﴾ ”میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں۔“ پھر آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ سے سن کہ آپ نے نماز ادا کرتے ہوئے کچھ کہا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس قسم کی بات آپ سے نہیں سن تھی اور ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ آپ نے جواب دیا، اللہ کا دشن ایلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تاکہ اس کو میرے چہرے پر پھینکے۔ میں نے

(۱) [بخاری (۳۳۷۱) کتاب حادیث الانبیاء: باب 'ابو داؤد' (۴۷۳۷) ترمذی (۲۰۶۰)]

(۲) [حسن: صحیح ابو داؤد (۳۲۹۴) کتاب الطب: باب کیف الرقی 'ابو داؤد' (۳۸۹۳) ترمذی (۳۵۲۸)]

(۳) [حسن: صحیح الترغیب والترہیب (۱۶۰۲) الصحیحة (۸۴۰) صحیح الجامع الصغیر (۷۴) مسند

احمد (۴۱۹/۳) ابن السنی (۶۲۷) مجمع الزوائد (۱۲۷/۱۰)]

تین بار کہا کہ میں تھوڑے اللہ کی بناء مانگتا ہوں۔ پھر میں نے کہا میں تھوڑے اللہ کی نہ ختم ہونے والی لعنت کرتا ہوں، لیکن الیس تین بار لعنت سمجھنے کے باوجود یہچہ نہ ہوا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑوں۔ اللہ کی قسم! اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا (کامے میرے رب مجھے ایسی بار شاہست عطا فرماجو میرے بعد کسی کے لاکن نہ ہو) نہ ہوتی تو شیطان صبح بندھا ہو املاک اور اہل مدینہ کے پچے اس سے کھلتے۔^(۱)

سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا

سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے اور بعض احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ گھروں میں اس سورت کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ﴾ "جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔"^(۲)

ایک دوسری روایت میں بھی اس طرح کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور مزید اس میں اس سورت کے پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے جیسا کہ فرمان نبوی ہے کہ ﴿اقرءُ وَا سُورَةَ الْبَقْرَةِ فِي بُوْتُكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ﴾ "اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔"^(۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ "سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا لینا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور بالدل والے (یعنی جادوگر اور کامن قسم کے لوگ) اس (کے توز) کی طاقت نہیں رکھتے۔"^(۴)

معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جنات و شیاطین سے بچاؤ کی ایک اہم مدیر ہے لہذا گھروں میں اس کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے اور اگر مکمل نہ پڑھی جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور روزانہ تلاوت کرنے کرتے رہنا چاہیے۔

سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھتے رہنا

رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرنے سے بھی انسان جنات و شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ فرمان نبوی ہے کہ "جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کرے گا

(۱) مسلم (۵۴۲) کتاب المساجد و مواضع الصلاة : باب جواز نون الشیطان فی اثناء الصلاة

(۲) مسلم (۷۸۰) کتاب صلاة المسافرين و فصرها : باب استحباب صلاة النافلة في بيته ، ترمذی (۲۸۷۷)

(۳) حسن : السلسلة الصحيحة (۱۵۲۱) صحيح الجامع الصغير (۱۱۷۰) مستدرک حاکم (۵۶۱۱)

(۴) صحيح : صحيح البخاري (۱۴۶۰) السلسلة الـ جلد (۳۹۹۲) مسند احمد (۲۴۹۵) دار المدى

(۳۲۴/۲) شیخ شعیب از زیر اسناد میں بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ الموسوعة الحدیثية (۲۲۲۰۰)

تو یہ اسے (ہر قسم کے فقصان، جنات، شیاطین اور جادو وغیرہ سے بچاؤ کے لیے) کافی ہو جائیں گی۔^(۱) علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی ہو جائیں گی کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آئین قیام اللیل سے کفایت کر جائیں گی، دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ شیطان سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی اور تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ هر قسم کی آفت و مصیبت سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تمام مفہوم ہی مراد ہوں۔^(۲)

ایک دوسری روایت میں حضرت نعمن بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا **إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ إِلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْفَنْيِ عَامَ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خُتُمَ بِهِمَا سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَلَا يُفْرَأُنَّ فِي دَارِ ثَلَاثَ لِيَلٍ فَيَقْرُبُهَا شَيْطَانٌ** ۔ ”بلاشہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دوبار سال پہلے ایک کتاب تحریر فرمائی، اس میں سے دو آیتیں نازل فرمائیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا ہے اور جس گھر میں بھی تین رات ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی جائے گی شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔“^(۳) یہ دونوں آیات بعد ترجمہ پیچھے ”جادو سے بچاؤ کی پیشگی اختیاطی تدابیر“ کے عنوان کے تحت ذکر کی جا بھی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔

روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا

آیت الکرسی قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے جو سورہ بقرہ میں اور تیسرا سے پارے کی ابتداء میں واقع ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو اسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔^(۴) جنات و شیاطین سے بچاؤ کے حوالے سے بھی یہ آیت نہایت اہم ہے۔ اس کے الفاظ (بعد ترجمہ) تو پیچھے ”جادو سے بچاؤ کی پیشگی اختیاطی تدابیر“ کے عنوان کے تحت ذکر کیے جا چکے ہیں البتہ ایک حدیث بیان ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ (صدقہ فطر) کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے (اپنے کپڑے میں) کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دیں تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔“

(۱) مسلم (۷-۸) بخاری (۴۰۰۸) ابو داؤد (۱۳۹۷) ترمذی (۲۸۸۱) [۱]

(۲) حسواشی علی صحیح مسلم (۴۰۲۱) [۲]

(۳) صحیح: صحیح ترمذی، ترمذی (۲۸۸۲) کتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في آخر سورة البقرة

(۴) مسلم (۸۱۰) کتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف وآلية الکرسی، ابو داؤد (۱۴۶۰) [۳]

صحح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! اپنے رات کے قیدی کا حال سناو؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس نے کہا کہ وہ بہت سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر بھی آئے گا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمادیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں چونکارہا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے (اپنے کپڑے میں) کھانے کی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں تو میں نے اسے کپڑلیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔

صحح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو ہریرہ! اپنے رات کے قیدی کا حال سناو؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! اس نے اپنی سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔

میں نے تیری باراں کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے (اپنے کپڑے میں) کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دیں، میں نے اسے کپڑلیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیں یہ تیری اور آخری دفعہ ہے، تروز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا، وہ کلمات کیا ہیں؟ کہنے لگا جب (سونے کے لیے) بستر پر آؤ تو آیت الکری **﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ...﴾** پڑھا کرو۔ اس کا یہ فائدہ ہو گا کہ ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظتہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صحیح تک کوئی شیطان تھمارے قریب نہ آسکے گا۔ چنانچہ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔

صحح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناو؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا تو (یہ سن کر) میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے لے کر آخر تک مکمل آیت الکری **پڑھ لیا کرو تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظتہاری حفاظت کرے گا اور صحیح تک کوئی شیطان تھمارے قریب نہ آسکے گا۔ یہ کرن جی کریم ﷺ نے فرمایا ﴿أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَّقَ وَ هُوَ كَذُوبٌ﴾** ”اس نے تم سے بات کچی کی ہے، حالانکہ وہ خود بھوٹا ہے۔“ ابو ہریرہ! تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ عرض کی نہیں تو آپ نے فرمایا ”یہ شیطان تھا۔“ (۱)

(۱) [بخاری (۲۳۱۱)، (۳۲۷۵)، (۵۰۱۰) کتاب الوکالۃ: باب اذا وکل رجلا فترك الوکيل شيئاً]

سورۃ الْاَخْلَاصُ، سورۃ الْفَلْقُ اور سورۃ النَّاسِ کی تلاوت کرنا

سورۃ الْاَخْلَاصُ، سورۃ الْفَلْقُ اور سورۃ النَّاسِ قرآن کریم کی آخری تین سورتیں ہیں۔ جنات سے بچاؤ اور روحانی علاج معالجہ کے لیے ان کی پابندی بھی بہترین عمل ہے۔ یہ تینوں سورتیں (بمعنی ترجمہ) یعنی ”جادو سے بچاؤ کی پیشگوئی احتیاطی تدبیر“ کے عنوان کے تحت گزرنچی ہیں۔ یہاں ان سے متعلقہ چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) حضرت ابوسعید خدري رض کا بیان ہے کہ ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَاهَنَّ وَعَنِ الْأَنْسَانَ حَتَّى نَزَّلَتِ الْمُعْوَذَةُ تِنَانٌ فَلَمَّا نَزَّلَنَا أَخَذَنَاهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا﴾ ”رسول اللہ ﷺ نے جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معاوذتیں تین سورتیں (الفلق اور الناس) نازل ہوئیں، پس جب وہ نازل ہوئیں تو آپ نے ان کے ساتھ دم کرنا شروع کیا اور ان کے علاوہ تمام دمون کو چھوڑ دیا۔“ (۱)

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿يَا أَبْنَاءَ عَبْدِيْ إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ﴾ ”ابن عابس اب کیا میں تمہیں سب سے افضل سورتوں کے متعلق نہ بتاؤں جن کے ساتھ پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں۔“ انہوں نے عرض کی ہضور رائے اللہ کے رسول! تو آپ ﷺ نے سورۃ الْفَلْقُ اور سورۃ النَّاسِ سکھائی۔ (۲)

(۳) ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عقبہ رض کو سورۃ الْاَخْلَاصُ، سورۃ الْفَلْقُ اور سورۃ النَّاسِ سکھائی اور پھر فرمایا کہ ﴿مَا تَعَوَّذُ بِمِثْلِهِ أَحَدٌ﴾ ”کسی نے ان جیسی سورتوں کے ساتھ پناہ مانگیں ما انگی (یعنی پناہ مانگنے کی ان جیسی اور کوئی سورتیں نہیں)۔“ (۳)

(۴) حضرت عائشہ رض کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معاوذتیں (سورۃ الْفَلْقُ اور سورۃ النَّاسِ) پڑھ کر اپنے جسم پر پھوک لیتے، جب آپ ﷺ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ ﷺ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے، آپ کے جسم پر پھیرتی۔ (۴)

(۵) ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رض کا بیان ہے کہ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ يَتَعَوَّذُ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ ...﴾ ”نبی کریم ﷺ ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورۃ الْاَخْلَاصُ، سورۃ الْفَلْقُ اور سورۃ النَّاسِ (تینوں کامل) پڑھ کر ان پر پھوٹنکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرے اور سامنے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ میں مرتبہ کرتے۔“ (۵)

(۱) [صحيح : هدایۃ الرواۃ (۲۸۲۱۴) ترمذی (۲۰۵۸) نسائی (۵۴۹۴) ابن ماجہ (۳۵۱۱)]

(۲) [صحيح : السلسلة الصحيحة (۱۱۰۴) نسائي (۳۱۲۲) مسند احمد (۱۰۳۴)]

(۳) [صحيح : صحيح الجامع الصغير (۷۹۵۰) نسائي (۵۴۳۰) كتاب الاستعاذة]

(۴) [بخاری (۵۰۱۶) كتاب فضائل القرآن : باب فضل المعاوذات ، مسلم (۲۱۹۲) ابن ماجہ (۳۵۲۹)]

(۵) [بخاری (۵۰۱۷) كتاب فضائل القرآن : باب فضل المعاوذات]

(6) ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحح و شام تین مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھو 『کفیل من کل شیء』 یہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔^(۱)

گھر میں داخلے کے وقت اور کھانا کھاتے وقت سُم اللہ پڑھنا

(1) حضرت جابر بن عبد اللہ رض سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کاذکرتا ہے (یعنی بِسْمِ اللَّهِ پڑھتا ہے) اور کھانے کے وقت بھی اللہ کاذکرتا ہے تو شیطان (دوسرے اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے نتو (یہاں تمہارے لیے رات کا قیام ہے اور نہ ہی رات کا کھانا۔ لیکن جب انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے (یہاں) رات کا قیام پالیا اور جب انسان کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات کا قیام اور رات کا کھانا (دونوں کو) پالیا۔^(۲)

(2) حضرت جابر رض سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 『إِذَا كَانَ جُنُاحُ اللَّيلِ - أَوْ أَمْسِيَتمْ - فَكُحُوا صَبِيَانَكُمْ ... بَابًا مُعْلَقاً』 『جب رات کا اندر ہر اشروع ہویا (آپ نے فرمایا کہ) جب شام ہو جائے تو بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلتے ہیں۔ البتہ جب ایک گھری رات گزر جائے تو نہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کرو کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا (جبکہ اسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو)۔^(۳)

(3) ایک روایت میں ہے کہ 『إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحْلُ الطَّعَامَ إِنْ لَا يُذَكَّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ』 『شیطان اس کھانے کو (اپنے لیے) حلال بنا لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔^(۴)

گھر سے نکلتے وقت مسنون دعا پڑھنا

حضرت انس بن مالک رض بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے 『يُقالُ لَهُ كُفْيَتٌ وَّ وُفِيقٌ وَّ تَنْحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ』 اس کے لیے کہا جاتا ہے تجھے کفایت کی گئی اور تجھے بچالیا گیا اور شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔^(۵) وہ دعا یہ ہے:

(۱) صحيح : صحيح الجامع الصغير (۴۴۰۶) ترمذی (۳۵۷۵) کتاب الدعوات

(۲) اسلام (۲۰۱۸) کتاب الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، ابو داود (۳۷۶۵) کتاب الأضمام : باب التسمية على الطعام [ابن ماجه (۳۸۸۷) احمد (۱۵۱۰)]

(۳) بخاری (۳۲۰۴) کتاب بدء الحلق : باب صفة ابلیس ، مسلم (۲۰۱۲)

(۴) اسلام (۲۰۱۷) کتاب الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، ابو داود (۳۷۶۶)

(۵) حسن صحیح سمعان ترمذی (ترمذی (۳۴۲۶) کتاب الدعوات : باب ما حرام ما يقول اذا خرج من بيته]

آیہ کی حقیقت اور اس کا علاج ﴿الْوَظِيفَةُ مِنَ الْعُزُولِ إِلَيْهِ﴾

﴿بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ ”اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ کی توفیق کے سوانح پچھ کرنے کی طاقت ہے اور نہ کسی چیز سے بچنے کی۔“

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنا

بیت الخلاء میں داخلے کے وقت ایک تو ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ پڑھ لینی چاہیے کیونکہ فرمان نبوی ہے کہ ﴿سَرْتُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَ عَوْرَاتٍ بَيْنَ آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ﴾ ”جب کوئی بیت الخلاء میں داخلے کے وقت ”بِسْمِ اللَّهِ“ کہہ لیتا ہے تو اولاد آدم کی شرمگا ہوں اور جنات کی آنکھوں کے درمیان پرده حائل ہو جاتا ہے۔“^(۱)

اور وسرے یہ کہ جنوں اور چڑیوں سے پناہ پر مشتمل یہ دعا بھی ضرور پڑھنی چاہیے:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْخَيْرَ﴾ ”اے اللہ! میں خبیث جنوں اور خبیث چڑیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔“^(۲)

مسجد میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھنا

مسجد میں داخلے کے وقت بھی رسول اللہ ﷺ شیطان مردوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوْجَهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِ الْقَدِيرِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ”میں شیطان مردوں سے عظمت والے اللہ کی، اس کے کریم چہرے کی اور قدیم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں۔“ اس دعا کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے ﴿حَفَظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ﴾ ”یہ شخص سارا دن مجھ سے محفوظ ہو گیا۔“^(۳)

ہم بستری کے وقت مسنون دعا پڑھنا

فرمان نبوی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت یہ دعا پڑھے ﴿فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَّمْ يَصُرِّهُ الشَّيْطَانُ﴾ ”تو یقیناً اس جماع سے ان کے مقدر میں اولاد ہو گی تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔“^(۴) وہ دعا یہ ہے:

(۱) [اصحیح : صحیح الجامع الصغیر (۳۶۱) ترمذی (۶۰۶) کتاب الجمعة : باب ما ذکر من التسمية عند دخول العلاء ، مشکلة المصابیح (۳۵۸)]

(۲) [بخاری (۱۴۲) کتاب الصلاة : باب ما يقول عند الخلاء الأدب المفرد (۶۹۲) مسلم (۳۷۵)]

(۳) [اصحیح : صحیح ابو داود ، ابو داود (۴۶۶) کتاب الصلاة : باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد]

(۴) [بخاری (۱۴۱) کتاب الوضوء : باب التسمية على كل حال و عند الوقوع ، مسلم (۱۴۳۴)]

۱۲۲ آیہ کی حقیقت اور اس کا عالج

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَنَّبَنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَنَا﴾ ”اللہ کے نام کے ساتھ (ہم جماع کرتے ہیں) اے اللہ! ہمیں شیطان سے محفوظ رکھا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔“

دن میں سو مرتبہ کلمہ تو حید و تہلیل پڑھنا

حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے:
 ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَحْدُودٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْحُكْمُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ "اللہ کے سوا کوئی معیوب درحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ما دشابی ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لائق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

تو اسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے لیے سونیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کی سو برائیاں مٹا دی جاتی ہیں ﴿وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ﴾ اور اس دن (شام تک) وہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔^(۱)

چند مختلف مسنون و نطاڭ

درج ذیل دو دعائیں بھی جنات سے پچاؤ کا بہترین ذریعہ ہیں کیونکہ فرمان نبوی کے مطابق جو بھی صحیح و شام ان دعاوں کا التزام کرتا ہے یا اسے ہرقسم کے شر (جنات و شیاطین کے حملوں، نقصان، آفات، مصائب اور آزمائشوں) سے کافی ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کا بھی ورد کرتے رہنا چاہیے۔

﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ﴾ (٢)

۲-^(۳) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يَصُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^{۴۰}
 واضح رہے کہ شیطانی ہنکنڈوں اور شر انگیزیوں کی تفصیل، وہ سے ذات کے طریقے اور بالتفصیل اس سے نجات
اور حفاظت کی مداری درکھانے کے لیے اسی سیریز کی ہماری دوسری کتاب "شیطان سے بحاوہ کی کتاب" ملاحظہ فرمائے۔

چھٹاٹ اور آسیٹ زدگی کا عہدہ لارج

جنات اور آسیب زدگی کا علاج کرنا چاہیے

(١) [بخاري (٦٤٠٣) كتاب الدعوات: باب فضائل التهليل، مسلم (٢٦٩١) ترمذى (٣٤٦٨)]

(٢) [مسلم (٢٧٠٨) كتاب الذكر والدعا: باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء]

[۳] حسن صحیح: صحیح ترمذی، ترمذی (۳۳۸۸) ابوداود (۵۰۸۸) ابن ماجه (۴۸۶۹)

آسیب زدگی کا بھی علاج کرنا چاہیے کیونکہ کتاب و سنت میں ہر بیماری کے علاج کی ترغیب دلائی گئی ہے اور یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفاناًزل فرمائی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی بھی کفر ہے جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ﴿إِنَّهُ لَا يَأْيُشُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُفَّارُونَ﴾ [یوسف : ۸۷]

”بلاشہ اللہ کی رحمت سے صرف کافری نامید ہوتے ہیں۔“

لہذا آسیب زدہ کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو اور کسی نیک اور ماہر معالج سے علاج اور اللہ تعالیٰ سے دعا و انجاء کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے۔ نیز اپنے آپ کو فیضیاتی طور پر مضبوط کرے، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل و یقین رکھے اور بے جاوہ اس اور توبہات کو ہرگز قبول نہ کرے۔ یہ چیزیں بھی اس کے لیے علاج میں مفید ثابت ہوں گی۔

علاوه ازیں یہ بھی یاد رہے کہ علاج کرنا توکل کے بھی منافی نہیں۔ جیسا کہ کچھ حضرات علاج معالج کے کو اس وجہ سے ناپسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ امتن محمد یہ کے ستر (۷۰) ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ن بدشگونی پکڑتے ہوں گے، نداع گلواتے ہوں گے اور نہیں دم کراتے ہوں گے بلکہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہوں گے۔^(۱)

اہل علم نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس باب کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے۔ بلکہ یہاں صرف یہ مراد ہے کہ وہ نیک لوگ اسباب کی سخت ضرورت کے باوجود بھی بدشگونی، داعی یا ہر وقت دم مطلب کرنے کی جگہ میں رہتے بلکہ غیر شرعی امور کو پانے کی وجہے اللہ تعالیٰ پر توکل کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر علاج معالج توکل کے منافی ہوتا تو نبی ﷺ دواء لینے کی ہجاءے اللہ تعالیٰ پر توکل کو ہی ترجیح دلاتے۔^(۲) اسی طرح یہ بھی معلوم ہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے خود نبی کریم ﷺ ہی تھے، لہذا اگر اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی ہوتا تو آپ کسی بھی میدان جنگ میں تیروں سے بچاؤ کے لیے زرہ بھی نہ پہنچتے جبکہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے جنگِ أحد میں دوزر ہیں زیر بتن کی ہوئی تھیں۔^(۳)

علاوه ازیں امام ابن قیم اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہمہم نے بھی تفصیلی بحث کر کے یہی ثابت کیا ہے کہ نقسان اور تکلیف سے بچاؤ کے لیے مختلف قسم کے اسباب کو بروئے کار لانا توکل کے منافی نہیں۔^(۴) شیخ سلیمان بن عبد اللہ

(۱) [بخاری (۵۷۵۲) کتاب الطب؛ باب من لم يرق ، مسلم (۲۲۰) کتاب الایمان]

(۲) [صحیح الصحیحة (۴۳۳) صحیح ترمذی ، ترمذی (۲۰۳۸) ابن ماجہ (۴۶۳۶)]

(۳) [حسن: صحیح ترمذی ، ترمذی (۳۷۳۸) کتاب المناقب: باب مناقب طلحہ بن عبید اللہ]

(۴) [زاد المسعود لابن القیم (۱۴/۴) مجموع فتاویٰ ابن عثیمین (۱۶۶/۱)]

الْفَقِيلُ بِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ الْمُنْتَهِيَّ إِلَيْهِ أَسِبُّ كَيْتَشُ اَوْ اَسْ كَالْعَالِجُ

بن محمد بن عبد الوهاب نے تو ان لوگوں کو جاہلوں میں شمار کیا ہے جو اس حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ وہ نیک لوگ بالکل، حق اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔^(۱)

معانچ کے لیے ضروری ہدایات

معانچ ان تمام ہدایات کی پابندی کرے جو حادو کے علاج کے ضمن میں پیچھے ذکر کی گئی ہیں۔ مرید چند ہدایات حسب ذیل ہیں:

✿ علاج سے پہلے باوضو ہو جائے اور آیت الکرسی، معوذہ تین سورتیں اور دیگر جنات و شیاطین سے بچاؤ کے مسنون اذکار و نظائر ف پڑھ لے اور اگر نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز ادا کر لے۔

✿ علاج سے پہلے یہ بھی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نصرت و حمایت لی خصوصی دعا کر لی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اس جمن کو مریض سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔

✿ جس جگہ علاج کر رہا ہے اسے پاک صاف کر لے، وہاں سے ہر غیر شرعی چیز جیسے آلاتِ موسیقی اور جانداروں کی تصاویر وغیرہ دور کر لے۔

✿ اپنا جسم اور لباس بھی ہر صورت پاک رکھے۔

✿ علاج اسی وقت شروع کرے جب مختلف علامات (جن کا بیان آگئے آ رہا ہے) کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ واقعی مریض آسیب زده ہے۔ جن زدگی کے حوالے سے انکل بچو سے کام نہ لے اور نہ ہی بغیر علم کے کوئی بات کرے۔ جیسے کہ شخص شک کی بنیاد پر کسی ایسے شخص کو آسیب زدہ قرار دے دینا جسے آسیب کا اثر نہیں۔ معانچ کا یہ دو یہ ایک تدرست انسان کو بھی نفسیاتی طور پر مریض بناسکتا ہے اور یہ تحریک باتی طور پر ثابت ہے۔

✿ علاج کے وقت کچھ لوگ اگر پاس موجود ہوں تو بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات جن حاضر ہونے پر مریض قابو سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے کڈنے یا اسے باندھنے کی بھی ضرورت پیش آجائی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر مریض پر اسی حالت نہ ہو تو پھر اسے مضبوطی سے کڈنا یا ہاتھ یا پاؤں باندھنا عبث ہے، لہذا پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

✿ علاج کے دوران بغیر کسی اشد ضرورت کے مریض کو مارنے جائے اور اگر بھی مارنے کی ضرورت پیش آجائے تو مریض کو اس قدر مارا پہنچانے جائے کہ وہ ہلاک ہی ہو جائے یا جس جن کی بجائے مریض کو تکلیف ہو رہی ہو تب بھی اسے نہ مارا جائے۔ کیونکہ ایک ماہر معانچ مریض کو صرف اسی صورت میں زرو کوب کرتا ہے جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس وقت مریض کو نہیں بلکہ جن کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسا کہ پیچھے امام ابن

(۱) تبیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید (ص: ۲۸۶)

تیسیہ بڑک کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے مریض کو مارا تو جن نکلنے کے بعد مریض کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسے مار پڑی ہے۔ لیکن آج کے بے دین نام نہاد عامل بعض اوقات جن نکلتے نکالتے مریض کوہی بلاک کر دیتے ہیں (جیسا کہ اکثر اخبارات وغیرہ میں اسکی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں)۔ ایسا محض اسی وقت ہوتا ہے جب اس عمل میں مہارت نہ ہو اور محض میں بُورنے کے لیے عمل اختیار کیا گیا ہو۔

✿

ایک مرتبہ علاج کے فوراً بعد ہی اگر مریض ٹھیک ہو جائے تو بہتر ورنہ دیگر امراض کی طرح مسلسل کئی ہفتے یا مہینے مریض کا علاج اور دم درود کرنا چاہیے، جب تک مریض مکمل طور پر آسیب سے نجات نہ حاصل کر لے۔

مریض کے لیے ضروری ہدایات

مریض بھی ان تمام ہدایات کو پیش نظر کے حوالے میں پیچھے بیان کی گئی ہیں۔

جن زدگی کی تشخیص

○ بذریعہ اذان و مسنون و ظائف:

جن زدگی کی پہچان کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مریض کے کان میں اوپھی آواز سے اذان کے کلمات پڑھنا شروع کر دیں اور مسلسل پڑھتے جائیں۔ مریض اگر جن زدگا تو ایسا کرنے سے اس پر غشی طاری ہو جائے گی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ اسی طرح بعض اوقات مسنون اذکار و ظائف (جن کا ذکر بالتفصیل پیچھے لزرو پڑکا ہے اور بالاختصار آئندہ بھی کیا جائے گا) پڑھنے سے بھی مریض کی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو اذان یا اذکار سن کر جن حاضر بھی ہو جاتا ہے اور پکھتی دیر میں بھاگ کھرا ہوتا ہے۔

اذان سن کر آسیب زدہ پر ایسی کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے؟ اس کے متعلق یاد رہے کہ ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان اذان سن کر بھاگ کھرا ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رض بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضَرَاطُ حَتَّىٰ لَا يَسْمَعَ النَّادِيْنَ فَإِذَا قَضَى النَّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّىٰ إِذَا ثُوَّبَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ﴾ ”جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پا دتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھے موڑ کر بھاگ کھرا ہوتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جوں ہی تکمیر شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگ اٹھتا ہے۔^(۱)

اذان کے علاوہ دیگر مسنون و ظائف پڑھ کر دم کرنے سے مریض کی ایسی کیفیت اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ وظائف مریض کو تیر وتلوار سے بھی زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں جیسا کہ ان کے متعلق تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

○ بذریعہ علامات:

— — — — —
(۱) ابخاری (۶۰۸) کے اذان: باب فضل الناذرين

آنکہ سطور میں چند ایسی علامات ذکر کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے آسیب زدگی کا پتہ لگایا جاسکتا ہے اور ہر معانع کو چاہئے کہ ان علامات کے ذریعے پہلے مریض کی اچھی طرح تشخیص کرے پھر علاج شروع کرے۔ آسیب زدگی کی علامات دو طرح کی ہیں۔ حالت بیداری کی علامات اور حالت نیند کی علامات۔ ان دونوں کا

بالاختصار بیان حسب ذیل ہے:

① حالت بیداری کی علامات:

- * بغیر کسی طبی سبب کے جسم کے حصے میں مسلسل درد رہتا ہو۔
- * مختلف اوقات میں دورے پڑتے ہوں اور پا گلوں جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہو۔
- * بعض اوقات مریض چینخا چلا تا ہوا اور کبھی بکھار جانوروں کی آوازیں بھی نکالتا ہو۔
- * اذان یا متلاوت قرآن سن کر بے چین ہوتا ہو۔
- * نتو صفائی سترہائی اور پا کیزگی کو پسند کرے اور نہ ہی اس کا کسی عبادت و ریاضت کے کام کو دل چاہے۔
- * ہمہ وقت ہنپتی پر بیٹانی، سستی و کامی اور شدید غفلت میں بیتلارہتا ہو۔
- * مختلف اوقات میں اسے دورے پڑتے ہوں اور پا گلوں جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہو۔
- * بعض اوقات آنکھوں کی یہ کیفیت ہوتی ہو کہ بند آنکھیں کوشش کے باوجود نہ کھلیں، اسی طرح کھلی آنکھیں کوشش کے باوجود بند نہ ہوں۔

② حالت نیند کی علامات:

- * نیند کی اور بے خوابی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہو۔
- * نیند میں بار بار ڈر جاتا ہو۔
- * ڈراؤنے خواب دیکھتا ہو۔
- * خواب میں خوفناک سائے، ڈراؤنی صورتیں یا مختلف جانور جیسے بلی، کتا، سانپ، اونٹ، شیر، لومڑی اور چوہا وغیرہ دیکھتا ہو۔
- * خواب میں خود کو بلندی سے گرتے ہوئے دیکھتا ہو۔
- * خواب میں اپنی الگیوں کو کاٹتے ہوئے دیکھتا ہو۔
- * خواب میں یہ دیکھتا ہو کہ کوئی گلاد بانے کی کوشش کر رہا ہے۔
- * خواب میں یہ دیکھتا ہو کہ کوئی قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
- * خواب میں خود کو کسی قبرستان یا کسی اور وحشت ناک مقام پر دیکھتا ہو۔

* خواب میں خود کو بہت زیادہ ہنستے ہوئے یا بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھتا ہو۔

نہیں یہاں یہ واضح رہے کہ یہ علامات اغلباً آسیب زدگی کے مریض میں پائی جاتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان علامات والامریض سو فیصد آسیب زدہ ہی ہو کیونکہ علامات کی حیثیت محض قرائن یا اشاروں کی ہوتی ہے جو کسی بھی چیز نکل پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ لہذا ان علامات کے ذریعے ایک امکانی صورت تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن حقیقی و تینی صورت نہیں۔

علاج کے مختلف مراحل اور طریقہ کار

○ مختلف مراحل:

آسیب زدگی کے علاج کے تین مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ علاج سے پہلے کا ہے، دوسرا دور ان علاج کا ہے اور تیسرا علاج کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں معانی کو چاہیے کہ مریض کے پاس جتنی بھی غیر شرعی چیزوں ہیں جیسے شرکیہ تعویذ یا کوئی کڑا، آلات موسیقی یا تصاویر وغیرہ، ایسی تمام اشیاء گھر سے باہر نکال دے۔ اسی طرح اگر مرد نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہو تو اسے اتر وا لے، عورت بے پردہ ہے تو اسے پردہ کروالے۔ بالفاظ دیگر بھس جگد یا جس مریض کا علاج کیا جا رہا ہے اسے تمام مفرادات سے پاک کر لیا جائے اور پورا اسلامی ماحول بنانے کے بعد علاج شروع کیا جائے۔

دوسرے مرحلے میں مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسنون اذکار و ظائف پڑھنے چاہیں (جن کا بیان آگے آ رہا ہے)۔ اس سے جن بھاگ جائے گا اور اگر بھاگے گا نہیں تو حاضر ہو جائے گا۔ اگر جن مسلمان ہو تو اسے فتحت کی جائے، سمجھایا جائے کہ بلا وجہ کسی دوسرے مسلمان کو تنگ کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا اور اگر جن غیر مسلم ہو تو اسے توبہ کی تلقین کی جائے اور شرارتوں سے باز رہنے کا کہا جائے، اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ورنہ اسے مسنون و ظائف کے ذریعے خوب بیٹھا جائے اور تکلیف دی جائے حتیٰ کہ وہ مریض سے نکل کر بھاگ جائے۔

تیسرا مرحلے میں جب مریض کا علاج ہو چکا ہو اور اس سے جن کو بھاگ دیا گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اب ہر ایسے کام سے بچ جس کے باعث دوبارہ اس پر جنات کا حملہ ہو سکتا ہو، جنات و شیاطین سے بچنے کی تمام حفاظتی تدابیر کو مضبوطی سے اپنائے، مسنون اذکار و ظائف کی پابندی کرے اور ہر قسم کے حرام کام سے بچ۔

○ مریض پر دم کی کچھ تفصیل:

مریض میں موجود جن کو حاضر کرنے کے لیے اولاً تو اذان بھی پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے جیسا کہ پہنچے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل و ظائف طاق عذر میں مسلسل پڑھ کر مریض پر پھونکیں مارنی چاہیں (دم کرتے وقت مریض کے سر پر دایاں ہاتھ رکھ لینا چاہیے):

- | | |
|-------|--|
| 1. - | تعوذ۔ |
| 2. - | بسم اللہ۔ |
| 3. - | سورہ فاتحہ |
| 4. - | سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۲۔ |
| 5. - | سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۰۲۔ |
| 6. - | سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۶۳۔ |
| 7. - | سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۵۵ (یعنی آیت الکرسی)۔ |
| 8. - | سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۸۴۔ |
| 9. - | سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۱۸۔ |
| 10. - | سورہ اعراف کی آیت نمبر ۵۴۔ |
| 11. - | سورہ یونس کی آیت نمبر ۸۱۔ |
| 12. - | سورہ مومون کی آخری ۴ آیات۔ |
| 13. - | سورہ کاطل کی آیت نمبر ۶۹۔ |
| 14. - | سورہ الصافات کی آیت نمبر ۱۰۶۔ |
| 15. - | سورہ الحجۃ کی آیت نمبر ۱۔ |
| 16. - | سورہ الحشر کی آیت نمبر ۲۱۔ |
| 17. - | سورۃ الحجۃ کی آیت نمبر ۳۶۔ |
| 18. - | سورۃ الاحسان کی آیت نمبر ۹۔ |
| 19. - | سورۃ الجن کی آیت نمبر ۱۔ |
| 20. - | سورۃ الاخلاق۔ |
| 21. - | سورۃ الفلق۔ |

واضح رہے کہ یہ تمام آیات یعنی ”جادو کا علاج“ کے عنوان کے تحت ذکر کی جا پچکی ہیں (اس لیے وہاں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں)۔ ان آیات کے ساتھ ساتھ مریض پر درود ابراہیمی، حضرت جبریل علیہ السلام اور ہر بیماری سے شفاء کا دم بھی پڑھا جاسکتا ہے (یہ دونوں دم بھی یعنی ”جادو کا علاج“ کے ضمن میں گزر چکے ہیں)۔ نیز اہل علم کا کہنا ہے کہ ان آیات کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر آیات بھی پڑھی جاسکتی ہیں کیونکہ سارا قرآن ہی شفاء ہے۔ جیسا کہ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ قرآنی آیات یا کسی بھی سورت کے ذریعے جن زدگی کے مریض کا علاج کیا جاسکتا ہے کیونکہ شرعی طور پر قرآن کریم کے ساتھ دم کرنا ثابت ہے۔^(۱) بہر حال جب مریض پر درج بالا آیات پڑھ کر دم کیا جائے گا تو اسی سے جن بھاگ جائے گا کیونکہ اس سے ابے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر فرو رجا گے کا نہیں تو تکلیف کی وجہ سے بول پڑے گا۔

○ جن حاضر ہونے کے بعد کیا کیا جائے؟

اگر جن حاضر ہو جائے اور بول پڑے تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھئے کہ جن سے ڈرنا ہرگز نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ خود ہی ڈر جائیں گے تو اسے بھاگیں گے کیسے؟ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآنی آیات اور مسنون و ظائف کی جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ بڑے سے بڑے طاق تو جن کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اسے بھاگ سکتی ہے۔ بہر حال جن حاضر ہونے کے بعد اسے سمجھانا بھانا چاہیے اور اس سے نکل گو کرنی چاہیے۔ جیسا کہ شیخ

(۱) افتاوی اللہجۃ الدائمة للمحوث العلمیہ والافتاء (۲۶۷۶۱)

الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ انسانوں کا جنوں کے ساتھ گفتگو کرنا ناممکن نہیں۔ جس طرح آسیب زدہ شخص ان سے گفتگو کر سکتا ہے اسی طرح کوئی دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے۔^(۱)

جن حاضر ہونے کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ مریض اپنے دونوں آنکھیں بھی سے ایک ہی جگہ پر لکا دیتا ہے، یا دونوں ہاتھ آنکھوں پر کھڑا ہوتا ہے، یا پورے جسم میں شدید کپکا ہٹ طاری ہو جاتی ہے، یا شدید چخنا چلا نا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے اور جب جن بولتا ہے تو مریض یقیناً نارمل حالت میں نہیں ہوتا اور عالم کو اندازہ ہوئی جاتا ہے کہ اب جن حاضر ہو چکا ہے۔

○ جن سے گفتگو اور وعظ و نصیحت:

اولاً جن سے اس کا نام، مذہب اور دلائل کا سبب پوچھنا چاہیے۔ جن مقامی زبان میں اپنا نام اور مذہب بتا دے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔

* * * اگر تو جن مسلمان ہو تو اسے بصیرت کرنی چاہیے اور اس سے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ تم اس شخص کو کیوں ٹنگ کر رہے ہو؟

* * * اگر جن بتاوے کہ اس نے مجھے فلاں وقت تکلیف پہنچائی تھی (جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات لا شعوری طور پر انسانوں کی طرف سے جنات کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے جیسے ان کی مجلس کی جگہ پر کسی کا پیشتاب کر دینا وغیرہ) تو اس شخص کی طرف سے معدتر پیش کرنی چاہیے اور وہ نہ کو سمجھانا چاہیے کہ جس شریعت کا وہ پابند ہے اس میں کسی بھی دوسرے مسلمان کو (خواہ وہ جن ہو یا انسان) اذیت دینا جائز نہیں، بطور خاص جب کسی شخص سے بلا قصد دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ سزا کا مستحق ہی نہیں ہوتا۔

* * * اور اگر وہ کام جس سے جن کو تکلیف ہوئی ہے، مریض نے اپنے گھر یا اپنی ملکیت کی جگہ میں کیا ہو تو جن کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جس کا گھر ہے وہ اپنی ملکیت کی جگہ میں کوئی بھی جائز تصرف کر سکتا ہے۔

* * * اور اگر جن یہ سبب بتائے کہ اسے مریض سے عشق ہے تو اسے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ سمجھانا چاہیے کہ عشق بھی حرام ہے۔

* * * اور اگر وہ بیمار جبھی دل لگی کے لیے یا شرارت کی غرض سے مریض کو ٹنگ کر رہا ہو تو اسے یہ سمجھانا چاہیے کہ اسلام کسی بھی مسلمان پر زیادتی کرنے کو جائز قرار نہیں دیتا۔

* * * اور اگر وہ مریض کو چمنے کا سبب جادو بتائے تو اسے یہ سمجھایا جائے کہ اسلام میں جادو کفر اور حرام ہے۔ پھر اس سے جادو کی حگہ دریافت کی جائے۔ عموماً جب جن پر معامل کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ جادو کی جگہ بھی بتاہی دیتا

(۱) [مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ (۴۰/۱۹)]

بے۔ لیکن اس کے باتانے پر ہی اطمینان نہ کر لیا جائے بلکہ کچھ افراد بھیج کر جن کی بتائی ہوئی گلگہ پر جادو کی اشنازہ دیکھ لی جائیں۔ اگر جادوئی اشنازوں جائیں تو انہیں ضائع کر دینا چاہیے۔

اسے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات بھی واضح کر دینی چاہیے کہ ان کے رہنے کا مقام غیر آباد اور ویران گھمیں ہیں، انسان یا انسانوں کے گھر نہیں (اگر تو جن واقعتاً مسلمان ہے اور اس پر عظم نصیحت کا اثر ہوتا ہے تو پھر وہ مریض سے نکل جائے گا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ جنات اکثر جھوٹے اور دھوکے باز ہوتے ہیں اس لیے ان کی ہر بات کو فوراً تسلیم کر لینا بھی دانائی نہیں لہذا اگر تو جن مسلمان ہو گا تو وہ نصیحت قبول کرے گا اور اگر نصیحت قبول نہیں کرتا اور سمجھانے سے نہیں نکلتا تو غالباً گمان ہے کہ وہ جھوٹا اور کافر ہے)۔

اگر جن کافر ہو ○

اگر جن کافر ہو تو اے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔ لیکن اسے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ ﴿لَا إِنْكَارَ لِهِ فِي الظِّرْفِينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] ”دین میں زبردستی (کسی کو داخل کرنا) نہیں۔“ اگر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے کلمہ پڑھایا جائے۔ کلمہ پڑھانے کے بعد اسے دین کی ابتدائی ضروری تعلیمات کے متعلق بتایا جائے۔ پھر اسے یہ سمجھایا جائے کہ اسلام میں کسی بھی مسلمان کا دوسرا مسلمان کو نگک کرنا جائز نہیں (خواہ وہ جن ہو یا انسان) اور نہ کسی پر ظلم کرنا جائز ہے اور تمہارا کسی انسان میں میں رہنا ہی اس پر ظلم ہے۔ اس لیے اس سے نکل جاؤ۔ ایسا کرنے سے یقیناً وہ اس مریض سے نکل جائے گا۔

اور اگر بالفرض وہ نہ تکلیف کرے یا وہ بہت زیادہ طاقت کا مالک ہو تو پھر اسے درج بالا
قرآنی آیات اور مسنون اذکار پڑھ پڑھ کر تکلیف پہنچائی جائے (واضح رہے کہ یہ وظائف پڑھ کے مریض پر
پھونک بھی ماری جاسکتی ہے اور پانی پر پھونک مار کر دم والا پانی مریض کو پلایا بھی جا سکتا ہے)۔ بالآخر وہ تکلیف کی
شدت کی وجہ سے مریض سے نکلنے مرجبور ہو جائے گا۔

اٹک ضروری و صاحت ○

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن بہت زیادہ دھوکہ باز اور چالاک ہوتا ہے۔ وہ معانج کوتونکلے کا کہہ دیتا ہے لیکن خود انسان کے اندر ہی کہیں جھپ کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس لیے جب بھی جن نکلنے کا کہہ تو اس کے بعد مزید تسلی کے لیے اوپر ذکر کردہ وظائف پڑھ کر مریض پر دوبارہ دم کریں، اگر تو جن اس میں موجود ہو گا تو مریض کو پھر کپکی طاری ہو جائے گی اور اس کی حالت ملنے لگئی گی، لیکن اگر نکل جکا ہو گا تو مریض اطمینان میں ہی رہے گا۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ چونکہ شہد میں شفارکھی گئی ہے، اسی طرح کلوخی میں بھی فرمان نبوی کے مطابق ہر یہار کی شنگا سے (ہوا یعنی موت کے) لئے کوئی ہمیشہ کوئی شکاری کی نہیں۔

کی تلقین کرنا بھی مفید ہے۔

○ جن نکلنے کے بعد:

جب جن مریض سے نکل جائے تو معانج کو چاہیے کہ اس کا میابی پر اترانے یا فخر و تکبر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مریض کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ درست کرے، ہر شر کیہ کام سے بچے، نماز کی پابندی کرے، ہمیشہ باوضو ہو کر سوئے، سوتے وقت سورۃ الملک، آیت الکرسی اور معوذ تین سورتیں ضرور پڑھے، گھر میں اکثر اوقات سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے، فخش فلموں اور موسيقی سے بہر صورت بچے، حورت ہو تو شرعی پرده کا اہتمام کرے اور سابقہ اوراق میں بیان کردہ ”جنت سے بچاؤ کی یہی احتیاطی تدابیر“ عمل کی پوری کوشش کرے۔

گھریادفتر وغیرہ سے جن بھگانے کا طریقہ

① گھریادفتر وغیرہ میں کثرت کے ساتھ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے اور جب تلاوت کرنے والا تھک جائے تو سورۃ بقرہ پر مشتمل کیسٹ چلا دی جائے۔ کیونکہ فرمان نبوی ہے کہ ”جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔“^(۱) ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔“^(۲)

② گھریادفتر وغیرہ کو صاف سحر اکھا جائے۔ کیونکہ بالعموم جناتِ نجدی اور نجدی جگہوں کو ہی پسند کرتے ہیں اور انہی مقامات پر بسرا کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے صفائی سحرائی کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم ﷺ کو خواطیر کر کے ساری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے «وَثَيَاكُمْ فَظَهِيرَ» [المدثر: ۴] ”اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو“ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُظاهِرِينَ» [الشوبہ: ۱۰۸] ”اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔“ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو طہارت کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ «الظَّهُورُ شَطْرُ الْيَمَانِ» طہارت نصف ایمان ہے۔^(۳)

③ گھریادفتر وغیرہ کو خوبصوردار کھا جائے۔ کیونکہ پاک روحلیں خوبیوں کو پسند کرتی ہیں اور غبیث روحلیں (جنات و شیاطین وغیرہ) اسے ناپسند کرتی ہیں۔ جیسا کہ امام ابن قیم جوزیہ نے فرمایا ہے کہ ”خوبیوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اسے پسند کرتے ہیں اور شیطان اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ شیطان کی پسندیدہ چیزوں ہے جو سخت بد پودا رہو۔“^(۴) اسی لیے نبی کریم ﷺ خوبیوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ

(۱) مسلم (۷۸۰) کتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب استحباب صلاة النافلة في بيته ، ترمذی (۲۸۷۷)

(۲) حسن : السلسلة الصحيحة (۱۵۲۱) صحیح الجامع الصغير (۱۱۷۰) مستدرک حاکم (۵۶۱/۱)

(۳) مسلم (۲۲۲) کتاب الطهارة : باب فضل الوضوء (۴) [الطب النبوی (ص: ۴۳۷)]

﴿ حُبَّبَ إِلَىٰ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَ الطَّيْبُ ﴾ ”تمہاری دنیا کی چیزوں میں عورتیں اور خوبیوں مجھے زیادہ پسند ہے۔“^(۱) اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ ”جسے خوبیوں (بطور نعم) پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے کیونکہ یہ عمدہ مہیک والی ہے اور اٹھانے میں بھی ہلکی ہے۔“^(۲)

④ اہل علم نے رہائش مقامات سے جنات بھگانے کا یہ طریقہ بھی ذکر کیا ہے کہ اولاداً گھر سے تمام غیر شرعی اشیاء (جیسے موسیقی کے آلات اور تصاویر وغیرہ) کو نکال دیا جائے۔ پھر گھر کو اچھی طرح صاف سفر اکر کے کسی بڑے بتن میں پانی لے لیا جائے اور اس میں خوبیوں والی جائے۔ پھر سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص اور معوذین سورتیں پڑھ کے پانی میں پھونک دیا جائے؛ پھر پانی کو سارے گھر میں بطور خاص گھر کے اطراف اور کونوں میں اچھی طرح چھڑک دیا جائے۔ یقیناً اگر گھر میں جنات ہوں گے تو اس عمل سے بھاگ جائیں گے۔

جنات سے بچاؤ اور آسیب زدگی کے علاج کے چند غیر شرعی طریقے

* تعویذ باندھنا، خواہ قرآنی آیات پر ہی مشتمل کیوں نہ ہوں۔ اس حوالے سے کچھ تفصیل پیچھے ”جادو کا علاج“ کے عنوان کے تحت گزروچکی ہے۔

* کسی عامل کے دم کیے ہوئے کیل گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں پر ٹھوکنا۔

* باہموں میں کڑے، چلے اور مخصوص قسم کے پھرلوں والی انگوٹھیاں پہنانا۔

* کاہنوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں کے پاس جانا اور ان کی ہربات میں عن تسلیم کرنا۔

* نامنہاد عاملوں کی مغلوکی ہوئی ہر چیز انہیں پہنچانا جیسے جیض آلو کپڑا، سیاہ مرغ، کالا بکرا، لمڑی کے ناخن وغیرہ۔

* آسیب زدہ کو قرآن پر بھاکر منظر پڑھے ہوئے پانی سے غسل کرانا۔ (العیاذ بالله)

* جن کو سیمان غلیظاً یا جبوں کے سردار یا ملکہ کی قسم دے کر جانے کے لیے کہنا۔

* دوسرے جبوں اور شیطانوں کی مدد حاصل کر کے آسیب زدہ کا علاج کرنا۔

* مریض میں موجود جن کو راضی کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے اس کے تمام ناجائز و حرام مطالبات اور شرائط بھی پوری کرنا۔

* آسیب زدہ عورت کا بے پر دگی کی حالت میں بغیر کسی محروم کے علاج کرنا۔

غیر شرعی طریقے اپنانے کا نقصان

① غیر شرعی طریقے اپنانے کا ایک تو دینی نقصان ہوتا ہے کہ انسان حرمتات کے ارتکاب کی وجہ سے گناہگار ہوتا

(۱) [صحیح: صحیح الجامع الصغير (۳۱۲۴) بیہقی (۷۸/۷) کنز العمال (۱۸۹۷۵)]

(۲) [مسلم (۲۲۵۳) کتاب الانفاظ من الادب: باب استعمال المسک وانه الطیب، الطیب]

رہتا ہے۔ اللہ سے دوراً۔ شیطان کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ”جو کسی عراف (قیافہ شناس) کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو چالیس روز اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔“^(۱) اسی طرح نام نہاد عاملوں اور نجومیوں کے پاس جا کر ان کی باتیں مان کرو کہ فرکا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ”بعض کسی قیافہ شناس یا کامن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد ﷺ پر نازل کردہ (تمام) تعلیمات کے ساتھ کفر کر دیا۔“^(۲)

② دوسرا نقصان دنیوی ہوتا ہے کہ حرام طریقوں سے ایک طرف تو شفا بھی نصیب نہیں ہوتی جیسا کہ صحیح بخاری میں تعلیق روایت ہے کہ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شَفَائِكُمْ فِيمَا حَرَمَ عَلَيْكُمْ﴾ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز میں تمہاری شفائیں رکھی جسے اس نے تم پر حرام کیا ہے۔^(۳) اور دوسری طرف فرمی عامل اور شعبدہ باز پیسے بھی لوٹتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ لوگ مریض سے اس کے گھر کے حالات بھی دریافت کر لیتے ہیں اور پھر علاج کے بھانے موقع پا کر گھر کا قیمتی سامان (زیور وغیرہ) لوٹ کر بھی فرار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بے پروگی کی حالت میں عورتوں کا علاج کرتے ہوئے بعض اوقات ان کی عصمت سے بھی کھلی جاتے ہیں اور اگر ایسا نہ کریں تو کم از کم انہیں تھپوتا، مصافحہ کرنا، بغل گیر ہونا، بوس و کنار کرنا اور ان سے اپنے قدم دبوانا، عموں کی بات ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ علاج کے بھانے گھر کی سیدھی سادھی عورتوں کو اپنے ساتھی بھگائے جاتے ہیں۔

⇒ الہزاد بینی اور دنیوی ہر طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے اسلام کی سیدھی اور سمجھی را کوہی اپنا ناچاہیے۔ اور مریض کا علاج صرف اور صرف شرعی طریقے کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ یقیناً دین اسلام پورے کا پورا مصلحت ہے مبنی ہے یعنی اسلام کا ہر حکم انسانوں کی دنیوی و آخری بھلائی کے لیے ہے اور انہیں نقصان سے بچانے اور فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہی مصلحت کا مفہوم ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”شریعت کی نیاد ہی دنیا و آخرت میں حکمتوں اور بندوں کی مصلحتوں پر ہے... ہر وہ مسئلہ جو مصلحت سے نکل کر خرابی و نقصان کی طرف چلا جائے یا حکمت سے نکل کر بے کار چیزوں میں شامل ہو جائے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔“^(۴)

(۱) [مسلم: کتاب السلام، صحيح الترغیب (۳۰۴۶) صحیح الجامع الصغیر (۵۹۴۰)]

(۲) [صحیح: صحيح الجامع الصغیر (۵۹۳۹) ابو داود (۴۳۹۰) ابن ماجہ (۶۳۹) ترمذی (۱۲۵)]

(۳) [بخاری: کتاب الاشربة: باب شراب الحلوا والعلس] :

(۴) [اعلام المؤمن (۳۱۳)]

بَابِ حَقِيقَةِ الْعَيْنِ وَعَالَجِهِ نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج

نظربد کا مفہوم

لغوی مفہوم

عربی میں نظر لگنے کے لیے **الْعَيْنُ** کا لفظ استعمال ہوتا ہے (اس کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے اور) یعنی نظر باب عَائِنَ يَعْيَّنُ (بروزن ضرب) سے مصدر بھی ہے۔ نظر لگانے والے کو عَائِنَ کہتے ہیں اور جسے نظر لگتی ہے اسے **مَعْيَّنٌ** کہتے ہیں۔

اصطلاحی مفہوم

(امام ابن اثیر جلت) نظر لگنے کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کا دشمن یا حاسدا سے نظر بھر کے دیکھتا ہے تو اس میں (اس کی نظر) اثر کر جاتی ہے جس سے وہ شخص (جسے دیکھا گیا ہے) بیمار ہو جاتا ہے۔^(۱)

(حافظ ابن حجر جلت) نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی خبیث طبیعت کا انسان کسی شخص پر اپنی حسد بھری نگاہ ڈالے اور اس سے نقصان پہنچ جائے۔^(۲)

(ابن قیم جلت) نظر بد ایک تیر کی مانند ہے جو حسد کرنے والے یا نظر لگانے والے کی طرف سے نکالتا ہے اور جسے دیکھا گیا ہے اس کے جسم میں جا کر لگتا ہے۔ بعض اوقات یہ تیر خطا بھی ہو جاتا ہے۔ جسے نظر لگائی گئی ہے اگر وہ غیر مسلم ہو تو اسے یہ تیر ضرور نقصان پہنچاتا ہے اور اگر مسلمان ہو جو تمی و پر ہیزگار، مسنون اذکار کا پابند اور ہر قسم کے شرعی عیب سے پاک ہو تو اسے یہ تیر نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ بعض اوقات تو یہ تیر پہنچنے والے پر واپس بھی لوٹ جاتا ہے۔^(۳)

(شیخ صالح الفوزان) نظر کا لگنا بعض لوگوں میں موجود حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، جب وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظر کے اثر سے انہیں نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ ان کی نظر زہر آلوہ ہوتی ہے اور یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عجائب میں سے ہے کہ وہ بعض نظروں کو زہریلی بنادیتا ہے، جب ایسی نظر سے دیکھنے والا کسی شخص، جانور یا کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے حکم سے نقصان پہنچاتا ہے۔^(۴)

حسد اور نظر بد میں فرق

① ((فَكُلُّ عَائِنٍ حَاسِدٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَاسِدٍ عَائِنًا ...)) ہر نظر لگانے والا شخص حسد ہوتا ہے اور ہر

(۱) [النهاية في غريب الحديث (۶۲۵/۳)] (۲) [فتح الباري (۲۰۰/۱۰)]

(۳) [زاد المعاد لابن القیم (۷۱/۶)] (۴) [اعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد (۸۴/۱)]

حاسد نظر لگانے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الفلق میں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، سو کوئی بھی مسلمان جب حاسد سے پناہ طلب کرے گا تو اس میں نظر لگانے والا انسان بھی خود بخود آجائے گا اور یہ قرآن مجید کی بلاغت، شمولیت اور جامعیت ہے۔

② حد بغض اور کینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ جونخت دوسراے انسان کو ملی ہوئی ہے وہ اس سے چھوٹ جائے اور حاسد کوں جائے، جبکہ نظر بد کا سبب حیرت، پسندیدگی اور کسی چیز کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دونوں کی تاثیر ایک ہوتی ہے اور سب الگ الگ ہوتا ہے۔

③ حاسد کسی موقع کام کے متعلق حد کر سکتا ہے جبکہ نظر لگانے والا کسی موجود چیز کو ہی نظر لگا سکتا ہے۔

④ انسان اپنے آپ سے حد نہیں کر سکتا، البتہ اپنے آپ کو نظر بد کا سکتا ہے۔

⑤ حد صرف کینہ پر ور انسان ہی کرتا ہے، جبکہ نظر ایک نیک آدمی کی بھی لگ سکتی ہے جبکہ وہ کسی چیز پر حیرت کا اظہار کرے اور اس میں نعمت کے چھوٹ جانے کا ارادہ شامل نہ ہو، جیسا کہ عامر بن ربعہ رض کی نظر قبل بن حنیف رض کو لوگ گئی تھی، حالانکہ عامر بدری صحابی تھے۔^(۱)

نَظَرِيَّةِ حِقْقَتِ اُوْرَاسِ كَالْعَلَاجِ

آیاتِ قرآنیہ کی روشنی میں نظر بد کا اثبات

(۱) حضرت یعقوب عليه السلام نے جب اپنے بیٹوں کو غلمہ لینے کے لیے مصر کی جانب روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی:

﴿يَدْعَيْنَ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَأْبٍ وَّا حِدْبًا وَّا دُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَّمَا أَغْنَيْنَاهُ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَعَلَيْهِ تَوْكِيدُ كُلِّ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [یوسف: ۱۶۷]

”اے میرے بیٹو! (شهر میں) ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے نال نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔“

اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رازیں کہ ”حضرت ابن عباس رض، محمد بن کعب، مجاهد، صحابہ، قادہ، سدی اور دیگر کئی ایک ائمہ تفسیر رض نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام کا یہ اقدام انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے

(۱) ماخوذ از، جادو کا علاج، اردو ترجمہ ”الصارم البخاری التصدی علی السحرۃ الاشرار“ (ص: ۱۶۷) مزید دیکھئی: زاد المعاد لابن القیم (۱۶۷/۴) بداع النوائد لابن القیم (۴۵۸/۲) الصب الشوی لابن القیم (ص: ۱۴۵) تفسیر محسان الشاوی لمقاصی (تحت سورۃ یوسف: آیت ۶۸) فتاوی الحجۃ الدائمة للبحوث الاسلامیة والافتاء (۲۷۱/۱)

تحا۔ اس وجہ سے کہ وہ سب کے سب بہت خوبصورت، تدرست، تو اور جواناں رعناتھے۔ آپ نے خدشہ محسوس کیا کہ کہیں لوگ اپنی نظر ہی لگادیں کیونکہ نظر برق ہے۔ نظر بد تو شہسوار کو گھوڑے سے یقین گردیتی ہے۔^(۱)

امام بغوي^{رض} نے فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات سے خاف ہو گئے تھے کہ کہیں ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگ جائے کیونکہ انہیں خوبصورتی، قوت و طاقت اور طویل قد و قامت عطا کی گئی تھی۔^(۲)

(2) ﴿وَإِن يَحْكُمُ الدِّينَ كَفُرًا إِلَيْهِ لِقُوَّتُكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا إِلَذْكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ (۵۱-۵۲) [القلم: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذُكْرٌ لِلْعَلَمِينَ﴾] اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز لگا ہوں سے آپ کو پھسلا دیں، جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ درحقیقت یہ (قرآن) تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔

امام ابن کثیر^{رض} اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ ”مراد یہ ہے کہ اگر تیرے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت اور بچاؤ نہ ہوتا تو یہ کفار تھے اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر نظر ہی لگادیتے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظر بد کا لگ جانا اور اللہ کے حکم سے اس کی تاثیر ہونا برق ہے۔^(۳)

اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبدالرحمٰن بن ناصر سعدی^{رض} فرماتے ہیں کہ ”آپ کے دشمنوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کو غصے کی نظر سے گھور کر دیکھیں، سد، کینہ اور غیظ و غضب کی بنابر آپ کو نظر لگادیں۔ یہی اذیت فعلی میں ان کی انتہائے قدرت اور اللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ ناصر تھا۔^(۴)

(3) ﴿وَمَن شَرِّ حَايِدٌ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ۵] ”اور (میں پناہ مانگتا ہوں) حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔“

اس آیت میں حسد سے پناہ مانگی گئی ہے اور اسی میں نظر لگانے والے سے پناہ بھی شامل ہے کیونکہ ہر نظر لگانے والا حسد ہی ہوتا ہے۔

احادیث نبویہ کی روشنی میں نظر بد کا اثبات

(1) حضرت ابو ہریرہ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ﴿الْعَيْنُ حَقٌ﴾ ”نظر بد لگنا حق ہے۔“ صحیح مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں ﴿الْعَيْنُ حَقٌ﴾ وَلَوْ كَانَ شَيْئٌ سَابِقُ الْقَدْرِ، سَبَقَتُهُ الْعَيْنُ ﴿نظر بد لگ جانا برق ہے اور اگر کوئی چیز قدر یہ پر غالب آتی تو وہ نظر ہوتی۔^(۵)

(۱) تفسیر ابن حکیم (۳۷۴/۳) [۲۵۸۱۴]

(۲) معالم التنزيل (۲۵۸۱۴)

(۳) تفسیر ابن حکیم (۴۰۴/۶) [۲۸۲۶/۳]

(۴) تفسیر ابن حکیم الرحمٰن (۴۰۴/۶)

(۵) [بخاری (۵۷۴۰) کتاب الطب : باب العین حق، مسلم (۲۱۸۸) ترمذی (۲۰۶۲) ابن حبان (۶۱۰۷)]

- (2) حضرت ابوذر رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿إِنَّ الْعَيْنَ لَتُولَعُ بِالرِّجْلِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَصْعَدَ حَالَقًا ثُمَّ يَرْتَدَيْ مِنْهُ﴾ ”باشہ نظر بد انسان پر اللہ کے حکم سے اڑانداز ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ کسی اوپری جگہ پر ہو تو وہ نظر بد کی وجہ سے نیچے گر سکتا ہے۔“^(۱)
- (3) حضرت جابر رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّةِي بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ بِالْعَيْنِ﴾ ”میری امت میں قضاو تقدیر الہی کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔“^(۲)
- (4) فرمان نبوی ہے کہ ﴿اسْتَعِينُذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ﴾ ”نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کرو کیونکہ نظر گنجانہ برحق ہے۔“^(۳)
- (5) حضرت ابن عباس رض سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿الْعَيْنُ حَقٌ تَسْتَنْزِلُ الْحَالَقَ﴾ ”نظر بد برحق ہے اور یہ انسان کو اونچے مقام سے گراہی کرنے ہے۔“^(۴)
- (6) حضرت عائشہ رض کی تبیان کرتی ہیں کہ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمْرَهَا أَنَّ تَسْتَرِقَ مِنَ الْعَيْنِ﴾ ”رسول اللہ ﷺ نے انہیں نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیا۔“^(۵)
- (7) ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماء رض نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا ﴿إِنَّ بَنْتِي جَعْفَرَ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَفَاسْتَرِقُ لَهُمْ؟ قَالَ نَعَمْ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَدْرَ لَسَبَقَتِهِ الْعَيْنُ﴾ ”بن جعفر کو نظر گنجی ہے کیا میں انہیں دم کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا! اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔“^(۶)
- (8) فرمان نبوی ہے کہ ﴿الْعَيْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ﴾ ”نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہندیا میں داخل کر دیتی ہے (یعنی وہاں کوموت تک بھی پہنچا دیتی ہے)۔“^(۷)
-
- (۱) صحيح : صحيح الجامع الصغير (۱۶۸۱) [الصحیحة (۸۸۹)]
- (۲) حسن : صحيح الجامع الصغير (۱۲۰۶) [الصحیحة (۷۴۷)]
- (۳) صحيح : صحيح الجامع الصغير (۹۳۸) [سلسلة الصحیحة (۷۳۷)]
- (۴) صحيح : السلسلة الصحيحة (۱۲۵۰) مسند احمد (۲۸۱۱۴) شیعیب ارناؤوط نے اسے حسن الغیرہ کہا ہے۔ [المروسوة الحدیثیة (۲۴۷۷)]
- (۵) بخاری (۵۷۲۸) مسلم (۲۱۹۵) ابن ماجہ (۳۵۱۲) مسند احمد (۶۳۶) بغوفی (۳۲۴۲) []
- (۶) صحيح : السلسلة الصحيحة (۱۲۵۲) ابن ماجہ (۳۵۱۰) ترمذی (۲۰۵۹) مسند احمد (۴۳۸۶) []
- (۷) حسن : السلسلة الصحيحة (۱۲۴۹) ابو نعیم فی الحلیة (۹۰۱۷) []

(9) حضرت ام سلمہؓ سے مرودی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر (نظر بد کی وجہ سے) سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ﴿إِنَّ شَرْفَهُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النُّظَرَةَ﴾ ”اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔“ (۱)

(10) حضرت انس بن مالکؓ کا بیان ہے کہ ﴿رَحَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّؤْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ ...﴾ ”رسول اللہ ﷺ نے نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کی اجازت دی ہے۔“ (۲)

اہل علم کے اقوال و فتاویٰ کی روشنی میں نظر بد کا اثبات

(ابن قیشر جلت) اللہ کے حکم سے نظر بد کا لگنا اور اس کی تاشیر برحق ہے۔ (۳)

(ابن قیشر جلت) کچھ کم علم رکھنے والے لوگ نظر بد کو موثر قرار نہیں دیتے بلکہ اسے محض تو ہم پرستی سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ جاہل ہیں اور روحوں کی تاشیر اور صفات سے واقف نہیں، نیز ان کی عقولوں پر پرده پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہر امت اور قوم کے عقائد لوگ اختلاف نہاب کے باوجود نظر بد کا انکار نہیں کرتے۔ (۴)

(امام رازی جلت) نظر بد کے برحق ہونے کی کمی وجود ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت سے متقدم مفسرین نے اس آیت (یوسف: ۲۷) سے یہی مراد لیا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ نبی کریم ﷺ حضرت حسن و حسینؑ کو نظر بد سے بچاؤ کا دم کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اسی طرح حضرت ابراہیم عليه السلام حضرت اسماعیل و اسحاق عليهما السلام کو ہمی دم کیا کرتے تھے۔ (۵)

(علامہ آلوی جلت) نظر بد کے اثبات میں کوئی شبہ نہیں۔ (۶)

(شوكانی جلت) صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نظر بد برحق ہے اور عهد نبوی میں لوگوں کی ایک جماعت پر اس کا اثر ہوا تھا اور ان میں خود رسول اللہ ﷺ بھی شامل ہیں۔ شریعت کی ان نصوص کے باوجود اس کا انکار کرنے والوں پر بہت ہی توجب ہے۔ (۷)

(مازري جلت) حدیث کے ظاہر کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمہور علماء نے یہی رائے اختیار کی ہے کہ نظر بد برحق ہے، البتہ چند بعدی گروہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ (۸)

(۱) [بخاری (۵۷۳۹) کتاب الطه : باب رقیۃ العین ، مسلم (۲۱۹۷) تحفة الاشراف (۱۸۲۶۶)]

(۲) [مسلم (۲۱۹۶) کتاب السلام : باب استحباب الرقیۃ من العین والحملة والنظرة ، ترمذی (۲۰۵۶)]

(۳) [تفسیر ابن کثیر (۴۱۰/۱۰)] (۴) [زاد المعاد (۱۶۵/۴)]

(۵) [تفسیر رازی (تحت سورہ یوسف : آیت نمبر ۶۷)] (۶) [تفسیر روح المعانی (۱۸/۱۳)]

(۷) [تفسیر فتح القدير (۵۲/۴)] (۸) [کما فی تفسیر الحازن (۲۹۸/۳)]

(ابن العربي ثابت) توحید پرست لوگوں کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ نظر بد برحق ہے۔^(۱)

(علام عبد الرحمن مبارکپوری حنفی) نظر بد کے ذریعے کسی چیز کو نقصان پہنچ جانا ثابت اور موجود ہے۔^(۲)

(شیخ ابن شیمین ثابت) ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ نظر بد برحق اور ثابت ہے، شرعی طور پر بھی اور حسی طور پر بھی۔^(۳)

(سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی) حاسد کی نظر کی تاثیر محمود میں واقع اور معروف ہے لیکن یہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہی مؤثر ہوتی ہے۔^(۴)

(شیخ عبدالمحسن العباد) حاسد کی نظر سے کوئی نقصان پہنچ جانا برحق ہے اور اس کی نظر سے نظر زدہ کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ (در اصل) اللہ کے فیصلے اور تقدیر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ (واضح رہے کہ) بعض اوقات نظر بد ہلاکت اور موت تک بھی پہنچاتی ہے۔^(۵)

(شیخ صالح الغوزان) نظر بد برحق ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب کاریگری ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ چیز رکھ دیتا ہے کہ وہ جس پر پڑتی ہے اسے نقصان پہنچاتی ہے۔^(۶)

کوئی وزارت اوقات کے شائع کردہ موسوعہ فقهیہ میں ہے کہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ نظر بد کا لگ جانا ثابت اور موجود ہے اور نقوص میں اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور نظر بد مال، انسان اور حیوانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔^(۷)

کسی نیک اور محبت کرنے والے کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے

جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عامر بن ربیعہ رض کی نظر سہل بن حنیف رض کو لگ گئی تھی، حالانکہ عامر بدری صحابی تھے (کمل حدیث آئندہ عنوان "نظر بد کا علاج" کے تحت ملاحظہ فرمائیے)۔

اسی طرح حاسد اور کینہ پرور کے علاوہ بعض اوقات بہت زیادہ محبت کرنے والے، قریبی رشتہ دارحتی کے والدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جب بھی کوئی بہت خوبصورت، پیار اور پسندیدہ لگ تو اسے برکت کی دعا دی جائے۔ جیسے "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ" یا "مَاشَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" وغیرہ۔ اور اگر ایسے کوئی الفاظ یاد نہ ہوں تو اپنی زبان میں ہی اسے برکت کی دعا دے دینی چاہیے۔

(۱) [احکام القرآن لابن عربی (۱۸۵/۶)] (۲) [تحفة الانحوذی شرح جامع ترمذی (۶۰۵/۶)]

(۳) [فتاویٰ اسلامیہ (۴/۶۳۴)] (۴) [فتاویٰ اللحنة الدائمة (۱/۲۷۰)]

(۵) [شرح سنن ابی داود (۲۰۲/۲۰)] (۶) [المستقى من فتاوى الغوزان (۴/۱۱)]

(۷) [الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۳/۳۰)]

جنت کی نازارہ بھی انسان کو لگ سکتی ہے

حضرت ابوسعید خدری رض کرتے ہیں کہ ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَعَوَّدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَيْنُ الْإِنْسَانِ حَتَّىٰ نَزَّلَتِ الْمُعْوَذَاتَانَ فَلَمَّا نَزَّلَتْ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سَوَاهُمَا﴾ ”رسول اللہ ﷺ“ جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ ”معوذتین سورتیں“ نازل ہوئیں، پس جب وہ نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ تمام دموموں کو چھوڑ دیا۔^(۱) (ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ) نظر بد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نظر بد وہ ہوتی ہے جو انسان سے لگے اور دوسروی وہ ہوتی ہے جو جن سے لگے۔^(۲)

کسی کافر کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے

کافر کی نظر بد بھی لگ سکتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں۔“^(۳) یہاں کافروں کی تیز نگاہوں سے مراد ان کی نظر بد ہے جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے۔^(۴) علاوہ ازیں نبی ﷺ کے اس فرمان ”نظر بد برحق ہے“ کے عموم میں کافر کی نظر بد بھی شامل ہے۔

کافر کو بھی نظر بد لگ سکتی ہے

(شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ) کافر بھی دوسرے انسانوں کی طرح ہی ہے، اسے بھی نظر بد لگ سکتی ہے، یقیناً نظر بد برحق ہے۔^(۵)

نَفَرَ بِدِيْ حَقِيقَتٍ سے بچاؤ کی پیشگی احتیاطی تدابیر

دوسروں کو اپنی نظر بد سے بچانے کی تدابیر

○ برکت کی دعا دینا:

(۱) ایک مرتبہ ایک صحابی کی دوسرے صحابی کو نظر لگ گئی تو نبی کریم ﷺ نے نظر لگانے والے کو کہا ہلأا إِذَا رَأَيْتَ مَا مَا يُعْجِبُكَ بَرَكْتَهُ ”جب تو نے ایسی چیز کو دیکھا جو تھے اچھی لگی تو تم نے اس کے حق میں برکت کی دعا کیوں نہ کی۔“^(۶)

(۱) صحيح: هدایۃ الرواۃ (۲۸۲/۴) ترمذی (۲۰۵۸) کتاب الطب: باب ما جاء في الرقة بالمعوذتين

(۲) زاد المعاد لابن القیم (۱۴۹/۴) [القلم: ۵۲-۵۱]

(۳) [تفسیر ابن کثیر (۴۰۴/۶)]

(۴) [تفاوی اسلامیہ (۶۳۵/۴)]

(۵) [صحیح: هدایۃ الرواۃ (۲۸۲/۴)، (۴۴۸۷)، صحیح ابن ماجہ (۲۸۴۸)، احمد (۴۸۶/۳)]

نَفْرُ بِكَ حَقِيقَتُ اُوْلَئِكَ الْعَالَمُونَ (الْفَاتِحَةُ) نَفْرُ بِكَ حَقِيقَتُ اُوْلَئِكَ الْعَالَمُونَ (الْفَاتِحَةُ)

(۲) ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ يَرْجِيْهُ وَمِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مَا يُعِجِّبُهُ فَلَيُبَرِّكَهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ﴾ ”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو یا اس کے نفس اور مال میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے تو اسے برکت کی دعا دے۔ کیونکہ نظر بد برحق ہے۔“^(۱)

معلوم ہوا کہ دوسروں کو پہنچنے کے لیے ہر اچھی لگنے والی چیز کے حق میں برکت کی دعا کر دینی چاہیے۔ برکت کی دعا ان الفاظ میں دی جاسکتی ہے ﴿بَارَكَ اللَّهُ لَكَ﴾ اور یہ الفاظ بھی استعمال کیے جاسکتے ہیں ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ جیسا کہ موسوعہ فقهیہ میں ہے^(۲)۔ سنا دی شدہ جوڑے کو دیکھ کر بھی انہیں ان الفاظ ﴿بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمِيعَ بَنِيَّتَكُنْدَافِ حَمِيرٍ﴾ میں برکت کی دعا دیتا سمجھ بہے کیونکہ شادی کے وقت وہ دونوں بہت خوبصورت بنے ہوتے ہیں اور خدا شہہ ہوتا ہے کہ کہیں انہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ بہر حال اگر برکت کی دعا دینے کے ایسے کوئی الفاظ یاد نہ ہوں تو اپنی مقامی زبان میں ہی برکت کی دعا دے۔ دینی چاہیے کہ اللہ تجھے برکت دے، مزید نوازے وغیرہ وغیرہ۔

○ ما شاء الله كمسنا:

قرآن کریم کی سورہ کہف میں دو آدمیوں کا قصہ مذکور ہے۔ ان میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے جن میں بہت زیادہ چلدار درخت تھے مگر وہ خود ناشکرا تھا۔ دوسرے شخص اسے نصیحت کیا کرتا تھا کہ تکبر نہ کیا کرو اور اپنے باغات دیکھ کر یہ کلمات کہا کر ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾۔ لیکن اس نے اپنی تکبرانہ روش جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا اور اس کے بارگاہ میں کہا کہ اس کے بارگاہ کا کردیے۔^(۳)

امام زرقانی رض کے اس فرمان ﴿لَوْلَا أَذْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ ”تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت یہ الفاظ کیوں نہ کہے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ ہر اچھی لگنے والی چیز ریکھ کر یہ ذکر کرنا چاہیے۔ امام ابن العربي رض نے فرمایا ہے کہ امام مالک رض نے اپنے گھر میں داخل ہونے والے شخص کے لیے بھی اس ذکر کو مستحب قرار دیا ہے۔^(۴) امام ابن کثیر رض نے آیت کے ان الفاظ ﴿لَوْلَا أَذْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ کے متعلق فرمایا ہے کہ اسی واقعہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض ائمہ سلف نے یہ بات کہی ہے کہ جس کمی کو بھی اپنی حالت، نال یا اولاد اچھی لگے تو وہ یہ الفاظ کہے ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾۔ یہ دعا اسی آیت سے

(۱) [صحیح : السلسلة الصحيحة (۲۵۷۲) مسند احمد (۴۴۷۳) مسند رک حاکم (۲۱۵۱)]

(۲) [الموسوعة الفقهية الكويتية (۳۱/۱۳)]

(۳) [الكهف : ۳۲ - ۴۴]

(۴) [شرح الزرقانی علی مؤطرا الامام مالک (۴۰۲۱)]

ما خود ہے۔^(۱)

درج بالتفصیل سے معلوم ہوا کہ ہر اچھی لگنے والی چیز کو دیکھ کر ”ما شاء اللہ“ کہہ دینا چاہیے۔ یہ الفاظ جہاں ایک طرف اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہیں وہاں دوسروں کو نقصان سے بچانے کا بھی بہترین سبب ہیں۔

○ حسد نہ کرنا:

کیونکہ جس سے آپ حسد رکھتے ہیں اسے آپ کی نظر بد لگ سکتی ہے کیونکہ ہر نظر بد لگانے والا حسد ہی ہوتا ہے (جیسا کہ پیچھے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے)۔ اسی لیے کتاب و سنت میں حسد سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں حسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔^(۲) جبکہ حدیث میں ہے کہ ﴿لَا تَحَاسِدُوا﴾ ”ایک دوسرے سے حسد مت رکھو۔“^(۳) اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ”کسی بھی مومن بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھنیں ہو سکتے۔“^(۴)

خود کو دوسروں کی نظر بد سے بچانے کی تدابیر

○ اللہ سے اپنے لیے برکت کی دعا کرتے رہنا:

اہل علم کا کہنا ہے کہ خود کو نظر بد سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے رہنا بھی مفید ہے، اسی طرح نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ما شاء اللہ وغیرہ جیسے کلمات پڑھتے رہنا بھی نظر بد سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے چند کلمات حسب ذیل ہیں:

* ﴿اللَّهُمَّ يارَكُلَّنَا فِيهِ وَرِزْدَنَمْنَهُ﴾ ”اے اللہ! ہمیں اس چیز میں برکت عطا فرم اور مزید عطا کر۔“ * ﴿اللَّهُمَّ يارَكُلَّنَا فِيهِ رَزْقَنَتَنَا﴾ ”اے اللہ! ہمارے لیے اس چیز میں برکت عطا فرم اجا جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔“

* ﴿لَا حُوَلَّ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ﴾ ”نکسی شر سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر صرف اللہ بزرگ و برتر کی توفیق سے ہی۔“

* ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ ”جو اللہ چاہے اور اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ کرنا ممکن نہیں۔“

○ نظر بد لگنے سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا:

(۱) [تفسیر ابن کثیر (۱۵۸/۵)] (۲) [الفرق: ۵]

(۳) [مسلم (۲۵۶۴) کتاب البر و الصلة والآداب: باب تحريم ظلم المسلمين، ابو داود (۴۸۸۲)]

(۴) [حسن: الترغيب والترهيب بتحقيق محيي الدين ديب (۴۲۵۲) احمد (۳۴۰/۲) ابن حبان (۴۵۸۷)]

بیہقی فی شعب الایسان (۶۰۹)]

یعنی وہ تمام و ظاہر کثرت سے پڑھتے رہنا جن میں نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جیسا کہ ایک روایت میں یہ وظیفہ ذکور ہے کہ ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْمَالِكِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا مَةٌ﴾ ”اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور زہر یعنی بلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔“^(۱)

○ معدودین سورتین پڑھتے رہنا:

حضرت ابو سعید خدری رض تبیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے چنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ ”معدودین سورتین (النحل، الناس)، نازل ہوئیں، پس جب وہ نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ تمام دموں کو چھوڑ دیا۔“^(۲)

یہ سورتین آپ ﷺ سورۃ اخلاص کے ساتھ صبح و شام تین تین مرتبہ^(۳)، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ^(۴) اور سوتے وقت تین تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔^(۵)

○ اپنے اہم امور اور خوبیاں مخفی رکھنا:

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نظر بد سے بچاؤ کی ایک مفید تبیر ان الفاظ میں بتاتے ہیں کہ ((سُنْرُ مَحَاسِنِ مَنْ يُحَافِ عَلَيْهِ الْعَيْنُ)) ”جنے نظر بد لگ جانے کا خدشہ بواس کے محاسن اور خوبیاں چھپا کر رکھنا۔“^(۶)

لبذا یہ تدبیر بھی مناسب ہے کہ آپ اپنی خوبیوں کو دوسروں سے چھپا کر ہی رکھیں اور اپنے اہم کاموں کے متعلق بھی تک تک دوسروں کو مت بتائیں جب تک وہ مکمل نہ ہو جائیں، خواہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ باشبہ رشتہ داروں میں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور حاسد کی نظر بد لگ لکھتے ہیں۔

○ نظر بد لگانے والے سے دور رہنا:

(شیخ ابن شیمین رحمۃ اللہ علیہ) حفظ ما لقدم کے تحت نظر لگانے والے سے بھی بچ کر رہنا چاہیے۔^(۷)

موسوعہ فقہیہ میں ہے کہ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علماء کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ جب کسی کے متعلق یہ علم ہو جائے کہ اس کی نظر بد لگ جاتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ اور امام وقت کے لیے

(۱) [بخاری (۳۲۷۱) کتاب أحاديث الأنبياء : باب أبو داود (۴۷۳۷) ترمذی (۲۰۶۰)]

(۲) [صحیح : هدایۃ الرواۃ (۲۸۲/۴) ترمذی (۲۰۵۸)] ب الطہ : باب ما جاء فی الرفیة بالمعدودین]

(۳) [صحیح : صحيح الجامع الصغير (۴۴۰۶) ترمذی (۳۵۷۵) باب الدعوات]

(۴) [صحیح : صحيح ابو داود (۱۳۴۸) ترمذی (۲۹۰۳) احمد (۱۵۵) حاکم (۲۵۳/۱)]

(۵) [بخاری (۵۰۱۷) کتاب فضائل القرآن : باب فضل المسعد ذات

(۶) [زاد المسعد (۱۵۹/۴)] (۷) [فتاویٰ اسلامیہ (۶۳۴/۴)]

مناسب یہ ہے کہ اسے لوگوں میں داخل ہونے سے روکے بلکہ اسے گھر میں ہی رہنے کی تلقین کرے اور اگر وہ فقیر ہو تو اسے (گھر پر ہی) اس کی ضرورت کے مطابق (کھانے پینے کی اشیاء) مہیا کر دی جائیں کیونکہ اس کا نقصان تھوم اور پیاز کھانے والے سے بھی زیاد ہے جسے نبی ﷺ نے مسجد میں آنے سے روک دیا تھا کہ وہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچا سکے۔ اور اس کا نقصان کوڑہ کے مریض سے بھی بڑھ کر ہے جسے عمر بن شفیع نے (مجلس میں آنے سے) روک دیا تھا۔ امام نووی جوشن نے فرمایا ہے کہ یہی بات صحیح اور متعین ہے۔^(۱)

نظر بد سے بچاؤ کے چند غیر شرعی طریقے

✿ تعویذ لٹکانا۔

✿ بچوں کو سیاہ یا نکار کانا۔

✿ بچوں کو سیاہ دھانگے یا کڑے وغیرہ پہنانا۔

✿ گھر کی کسی دیوار کو تھوڑا سا سیاہ کر لینا۔

✿ چھتوں پر ہندیاں رکھ لینا۔

✿ اپنی سواریوں اور گاڑیوں کے ساتھ جوتیاں یا سیاہ کپڑے باندھ لینا۔

✿ خود ساختہ تعلیم شریفین کا نقش گھروں یاد کانوں وغیرہ میں سجائیں۔

✿ کسی بزرگ یادی کی تصویر ہر وقت اپنے پاس رکھنا۔

✿ مخصوص قسم کے پتھروں اور نقوش والی انگوٹھیاں پہن لینا وغیرہ۔

نظر بد کا علاج

نظر بد کے علاج کے مختلف طریقے کتاب و سنت اور ائمہ سلف کے تجربات سے ثابت ہیں۔ آئندہ سطور میں ان کی کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

پہلا طریقہ (مریض کو عسل کرنا)

جس کی نظر لگی ہے اگر اس کا پتہ چل جائے تو اس سے عسل کروایا جائے اور پھر جس پانی سے اس نے عسل کیا ہے اسے نظر زدہ شخص کے جسم پر بہادیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ﴿إِذَا أَسْتَغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا﴾ ”جب تم سے عسل طلب کیا جائے تو عسل کرو۔“^(۲)

(۱) [الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٢: ١٣)]

(۲) [مسلم (٢١٨٨) کتاب السلام : باب الطب والمرض والرقى، ترمذی (٢٠٦٢) ابن حبان (٦١٠٧)]

ایک طویل روایت میں ہے کہ حضرت ہبیل بن حنیف رض سفید رنگ اور خوبصورت جسم کے مالک تھے وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے کہ ان کے قریب سے حضرت عامر بن ربيعہ رض کا گزر ہوا انہوں نے یہ کہہ دیا، میں نے آج کے دن کی منذر کوئی دن نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسا خوبصورت جسم۔ بس یہ سخنا تھا کہ حضرت ہبیل رض (نظر لگنے کی وجہ سے) زمین پر گرد پڑے۔ انہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لا یا گیا تو آپ نے دریافت کیا کہ تم کس پر اس (کو نظر لگانے) کا الزام لگاتے ہو؟ تو لوگوں نے عامر بن ربیعہ کا نام پیش کیا۔ پس آپ نے عامر کو بلا لیا اور ان پر غصے ہوئے اور فرمایا عَلَامٌ يَقْتُلُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ؟ هَلَا إِذَا رَأَيْتَ مَا يَعْجَلُكَ بِرُكْتَ؟ ثُمَّ قَالَ اغْتَسِلْ لَهُ؟ ”کس وجہ سے تمہارا ایک اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تو نے ایسی چیز کو دیکھا جو تجھے اچھی لگی تو تم نے اس کے حق میں برکت کی دعا کیوں نہ کی۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس (یعنی ہبیل) کے لیے غسل کرو۔“

چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی کہنیاں، اپنے گھٹے، اپنے قدموں کے اطراف اور اپنے ازار کے اندر ورنی حصے کو ایک برتن میں دھویا۔ پھر ایک آدمی نے اس پانی کو پیچھے سے ہبیل کے سر اور کمر پر ڈالا پھر اس برتن کے سارے پانی کو اس پر اندھیل دیا گیا۔ یوں ہبیل رض (تندرست ہو گئے اور) لوگوں کے ساتھ واپس گئے تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔

ابن الجبل اور مؤطا کی روایت میں عامر رض کو غسل کی جگہ وضو کا حکم دینے کا ذکر ہے۔^(۱) اسی طرح حضرت عائشہ رض سے مروی ایک روایت میں ہے کہ كَانَ يُومُرُ الْعَائِنَ فَيَوْضُعُهَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ ”نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا تھا پھر نظر زدہ شخص اس (وضو والے پانی) سے غسل کر لیتا تھا۔“^(۲)

معلوم ہوا کہ اگر نظر بد لگانے والے کا علم ہو جائے تو اسے کسی ایسی جگہ غسل یا وضو کرنا چاہیے جہاں اس کے غسل یا وضو کا پانی جمع ہو جائے اور پھر اس جمع شدہ پانی کو مریض پر اس کے سر کے پیچھے سے بہادر بنا چاہیے یا اسے اس پانی سے غسل کر دینا چاہیے یا کم از کم چھیننے ہی مار دینے چاہیں۔

دوسری طریقہ (مریض کو دم کرنا)

اگر یہ علم نہ ہو سکے کہ کس کی نظر لگی ہے تو نظر بد کے مریض کو دم کرنا چاہیے۔ جیسا کہ نظر بد لگ جانے پر رسول اللہ ﷺ نے اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رض سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے۔“^(۳)

(۱) [صحيح: هداية الرواة (۲۸۲/۴)، (۴۴۸۷) صحيح ابن ماجة (۲۸۲۸)] شیخ شعیب ارازو وطنے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ [مسند احمد محقق (۱۵۹۸۰) امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔]

(۲) [صحيح: صحيح ابو داود، ابو داود (۳۸۸۰) كتاب الطب: باب ما جاء في العين]

(۳) [بخاری (۵۷۳۸) كتاب الطب: باب رقية العين، مسلم (۲۱۹۵) ابن ماجة (۳۵۱۲)]

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آلِ حزم کو سانپ کے ذئنے کی وجہ سے دم کرنے کی اجازت دی اور اسماءؓ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں کیا انہیں فقر و فاقہ کی شکایت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا۔ (لا ، وَلِكِنَ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ) ”نمیں، بلکہ انہیں نظر بہت جد لگ جاتی ہے۔“ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا۔ (ارْقِبْهُمْ) ”انہیں دم کیا کرو۔“ (۱)

حضرت ام سلمہؓ سے مردوی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر (نظر بد کی وجہ سے) سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔“ (۲)

دم کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ ہر طرح کے دم کی شرعاً اجازت ہے، صرف وہ دم منع ہے جو شرک یہ ہو۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا ”اعْرِضُوا عَلَى رُقَائِمُ لَا بَأْسَ بِالرُّفِيَّةِ مَا لَمْ تَكُنْ شُرُكًا“ ”مجھ پر اپنے دم پیش کرو اور کوئی بھی دم درست ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو۔“ (۳)

تیسرا طریقہ (مریض کا معوذ تین سورتیں اور پناہ مانگنے کی دعا میں پڑھنا)

نبی کریم ﷺ نظر بد سے بچاؤ کے لیے معوذ تین سورتیں (الافق اور الناس) پڑھا کرتے تھے جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ (۴) لہذا نظر بد کے مریض کوچا ہیے کہ وہ ان سورتوں کو کثرت سے پڑھے، بطور خاص صبح و شام، ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت۔

معوذ تین سورتوں کے علاوہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور اللہ سے پناہ مانگنے والی دعا میں پڑھنی چاہیے۔ ان دعاوں میں سے ایک دعا حسب ذیل حدیث میں مذکور ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بے شک تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام (ابنے میمُون) حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے:

(۱) مسلم (۲۱۹۸) کتاب السلام: باب استحباب الرقیۃ من العین والحمدة والنظرۃ

(۲) سخاری (۵۷۳۹) کتاب الطب: باب رقیۃ العین، مسلم (۲۱۹۷) تحفة الأشراف (۱۸۲۶۶)

(۳) مسلم (۲۲۰) کتاب السلام: باب لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرک]

(۴) صحيح: هدایۃ الرواۃ (۲۸۲/۴) ترمذی (۲۰۵۸) کتاب الطب: باب ما جاء في الرقیۃ بالمعوذتين

﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ﴾ "اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور زہریلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔“^(۱)

کے آئندہ سطور میں اللہ کی پناہ مانگنے پر مشتمل چند ایسے وظائف ذکر کیے جا رہے ہیں جو امام ان قیم راشنے اپنے تجربات کی روشنی میں نظر بد کے توڑ کے لیے نہایت موثر قرار دیئے ہیں۔ نظر بد کے مریض کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتا رہے۔

۱ ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ "میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی۔"

۲ ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ﴾ "اللہ تعالیٰ کے پورے کلموں کے ذریعے سے ہر شیطان اور زہریلے ہلاک کرنے والے جانور سے اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔"

۳ ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرْ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا دَأَبَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَّارِيقِ اللَّيْلِ إِلَّا ظَاهِرًا فَإِنْظُرْ قُبْحَيْرَ يَارَ حَمْنَ﴾ "میں اللہ تعالیٰ کے ان کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے نتوکوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بد اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، پھیلایا اور جسم دیا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتوں کے شر سے، اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کر آئے اے انتہائی ہم بران اے۔"

۴ ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَصِّيْهِ وَعَقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَنْحُضُرُونِ﴾ "میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، اس کے غصب سے اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے دوسروں سے اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔"

۵ ﴿أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْشَأْتَ أَخْذُنْ بِنَاصِيَّتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَأْثَمَ وَالْمَغْرَمَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا لَا يُهْزِمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلُفُ وَعْدُكَ سُبْحَانَكَ

(۱) [بخاری (۳۳۷۱) کتاب احادیث الانبیاء : باب ابو داود (۴۷۳۷) ترمذی (۲۰۶۰)]

وَمِنْدِيَكَ» اے اللہ! میں تیرے کریم چہرے اور تیرے پورے کلمات کے ذریعے (ہر) اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی تو نے پکڑ رکھی ہے۔ اے اللہ! تو ہی کناہ اور نصان کا ازالہ کرتا ہے۔ اے اللہ! تیرے لشکر کو شکست نہیں دی جاسکتی اور نہ ہی تو اپنے وعدے کی خلافت کرتا ہے۔ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔“

۶ ﴿أَعُوذُ بِوْجُوهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكُلِّ مَا تَوَالَّتُ إِلَيْهِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ
بِرْ وَلَا فَاجِرٌ وَأَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ وَمَنْ شَرَرَ
كُلُّ ذَنْبٍ شَرِّ لَا طَيْقُ شَرَّهُ وَمَنْ شَرَرْ كُلُّ ذَنْبٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَا صِيَّتَهُ إِنَّ رَبَّنِي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ﴾

”میں اللہ کے عظیم چہرے کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی ذات نہیں۔ اور اس کے ان تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں جن سے کوئی نیک یاد تجاوز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے اسماءے حسنی کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جن کا مجھے علم نہیں، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور ہر اس شر کی برائی سے جس کے مقابلے کی مجھے میں طاقت نہیں، اور ہر برائی والے کی برائی سے جس کی پیشانی کو تو نے پکڑ رکھا ہے، یقیناً میر ارب سید ہی راہ پر ہے۔“

۷ ﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكِّلُتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ
كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ
أَحْاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدَ الْلَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ
وَشَرِّ كُلِّهِ وَمَنْ شَرِّ كُلِّ ذَيْتَيْأَنْتَ آخِذُ بِنَا صِيَّتَهُ إِنَّ رَبَّنِي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ﴾

اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی مجبود (برحق) نہیں، تجھہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور تو عرش عظیم کا رب ہے۔ جو اللہ چاہے گا وہی ہو گا اور جو وہ نہیں چاہے کافی ہو گا۔ کسی شر سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے ہی۔ مجھے علم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے اور عدو کے اعتبار سے شمار کر رکھا ہے۔ اے اللہ! میں اپنے نفس کی شرتوں سے، شیطان اور اس کے شرک کے شر سے اور ہر اس جانور کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تو نے تھام رکھی ہے۔ یقیناً میر ارب سید ہی راہ پر ہے۔“

۸ ﴿تَحَسَّنْتُ بِإِلَهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْهُنْيٰ وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَعْتَصَنْتُ بِرَبِّي وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ
وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَسِيْنِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَأَسْتَدْفَعْتُ الشَّرَّ بِلَا حَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَحْسِيْنِ اللَّهِ وَنَعْمَ
الَّهُ كَيْفُ حَسِيْنِ الرَّبِّ مِنَ الْعِبَادِ حَسِيْنِ الْحَالِقِ مِنَ الْمَخْلُوقِ حَسِيْنِ الرَّازِقِ مِنَ الْمَرْزُوقِ حَسِيْنِ
الَّذِي هُوَ حَسِيْنِ حَسِيْنِ الَّذِي بِيَدِهِ مَلْكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِجِيرٍ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ حَسِيْنِ اللَّهِ وَكَفَى
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَاهُ يُسِّسَ وَرَاءَ اللَّوْمَرْ قِيَ حَسِيْنِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيْمُ ”میں اس اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبد نہیں، وہ میرا اور ہر چیز کا معبد ہے۔ میں اپنے اور ہر چیز کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرا تو کل اس زندہ ذات پر ہے جسے موت نہیں آسکتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہی شر کا دفاع طلب کرتا ہوں جس کی توفیق کے بغیر نہ کسی شر سے بچنے اور نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔ مجھے میرا رب ہی بندوں سے کافی ہے۔ مجھے میرا خالق ہی مخلوق سے کافی ہے۔ مجھے میرا رازق ہی (ہر) رزق دیئے گئے سے کافی ہے۔ مجھے وہی ذات کافی ہے، مجھے وہی کافی ہے۔ کافی ہے مجھے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہ پناہ دیتا ہے اور اسے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ کی کافی ہے جو کفایت کرتا ہے۔ اللہ نے اسے سن لیا جس نے اسے پکارا۔ اللہ کے سوا کوئی منزل مقصود نہیں۔ اللہ ہی مجھے کافی ہے جس کے سوا کوئی معبد برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔“^(۱)

چوخاطریقہ (پندرہ مخصوص دم)

نظر بد کے علاج کا چوخاطریقہ یہ ہے کہ نظر زدہ شخص کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے درج ذیل دعاوں میں سے کسی ایک یا تمام کے ساتھ دم کیا جائے۔

(۱) ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ كُلَّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَعْلَمُ بِشُفْعَيْكَ﴾ ”اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دتی ہے اور ہر نفس یا ہر حسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفاء عطا فرمائے اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں۔“^(۲)

(2) ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ كُلَّ ذَاءٍ يُشْفِيْكَ وَمَنْ شَرِّ حَاسِدًا حَسَدَ وَمَنْ شَرِّ كُلِّ ذَيْ عَيْنٍ﴾ ”اللہ کے نام کے ساتھ (دم کرتا ہوں) وہ آپ کو سخت دے، ہر بیماری سے شفا بخشے اور وہ تجھے ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بچائے جب وہ حسد کرتا ہے اور ہر نظر والے کی برائی سے محفوظ رکھ۔“^(۳)

(3) ﴿أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَأَشْفِيْ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَفَاءَ إِلَّا شَفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمًا﴾ ”اے لوگوں کے پروردگار بیماری کو دور کر دے شفاء عطا فرمائو ہی شفاء عطا فرمانے والا ہے تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے ایسی شفاء عطا فرمائو جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔“^(۴)

حاسد کی نظر بد دور کرنے کے چند طریقے

(۱) [زاد المعاد لابن القیم (۱۵۶-۱۵۰/۴)]

(۲) [مسلم (۲۱۸۶) کتاب السلام : باب الطب والمرض والرقی 'ترمذی (۹۷۲) ابن ماجہ (۳۵۲۳)]

(۳) [مسلم (۲۱۸۶) کتاب السلام : باب الطب والمرض والرقی]

(۴) [مسلم (۲۱۹۱) کتاب السلام : باب استحباب رقیۃ المریض 'بخاری (۵۷۴۳) کتاب الطب]

- چونکہ ہر نظر بد لگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے اس لیے اہل علم نے نظر بد کے علاج کے طور پر ان چند اسباب کو بروئے کار لانے کی بھی تلقین کی ہے جو حاسد کی نظر بد کو دور کرنے میں موثر ہیں۔ ان کا مختصر بیان حسب ذیل ہے:
- * حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔
 - * اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا اور اس کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرنا کیونکہ فرمان نبوي ہے کہ ”تم اللہ کی (یعنی اس کے حکم) کی) حفاظت کرو اللہ تھہاری حفاظت کرے گا۔
 - * حاسد کے حد پر صبر سے کام لیانا اور اسے معاف کر دینا۔
 - * اللہ تعالیٰ پر کامل توکل رکھنا کیونکہ جو اللہ پر توکل رکھتا ہے اللہ سے کافی ہو جاتا ہے۔
 - * حاسد سے خائف نہ ہونا اور اپنے دل پر ایسی کسی بھی فکر کا غلبہ نہ ہونے دینا۔
 - * مخلص ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور اللہ کی رضا تلاش کرتے رہنا۔
 - * گناہوں کی توبہ کرنا کیونکہ گناہ انسان کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔
 - * صدقة و احسان کرتے رہنا کیونکہ اس میں بلا وائے کوٹا لئے اور حاسد کی نظر بد دور کرنے کی عجیب تاثیر ہے۔
 - * حاسد کی آگ بجھاتے رہنا، اس طرح کہ جب بھی وہ برائی، سرکشی اور حسد میں بڑھے مقابلے میں اس کے ساتھ حسن سلوک، خیر خواہی اور شفقت سے پیش آنا۔
 - * اللہ غالب حکمت والے کی توحید کو اپنانا، جس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز بھی نفع یا لفصال نہیں پہنچا سکتی، یہ چیز درج بالا تمام طریقوں کی جامع ہے اور اسی پر ان تمام اسباب کا دار و مدار ہے۔ لہذا (یاد رکھو!) توحید ہی اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم (اور مضبوط) قلعہ ہے جس میں جو داخل ہو گیا اس نے امن پالیا۔ (۱)

سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(۱) [العلاج بالرقى من الكتاب والسنة ، از سعید بن علی الفحطانی (ص : ۱۰)]

باب المسائل المتفرقة عن السحر والجناز والعيون

جادہ جنات اور نظر بد سے متعلق
چند متفق سائل کا بیان

کیا کسی اچھے مقصد کے لیے جادو کیا جاسکتا ہے؟

مثلاً مشرک والدین کو موحد بنانے کے لیے، یہوی کو اطاعت گزار بنانے کے لیے یا اولاد کو لہو و لعب اور لغویات سے نکال کر صراط مستقیم پر لا انے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بارے میں یہ یاد رہے کہ پچھے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ جادو کرنا اور سیکھنا اسکھانا مطلق طور پر کفر ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ”جس نے جادو کیا جس کے لیے جادو کیا گیا (وہ ہم میں سے نہیں)۔“^(۱) اور ایک دوسری روایت میں مطلق طور پر جادو کو سمات بلک کرنے والی اشاعہ میں شمار کیا گیا ہے۔^(۲)

اس سے پہلی بات ہوتا ہے کہ جادو کرنا کرنا مطلقاً حرام اور کفر یہ کام ہے۔ لہذا جیسے کسی برے مقصد کے لیے جادو کرنا جائز نہیں اسی طرح کسی اچھے مقصد کے لیے بھی جادو کرنا تاجائز ہے۔ اچھے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی اچھے راستے کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔

جادو اور علم نجوم کی کتب پڑھنا

سابق مفتی اعظم سعود یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ جادو اور علم نجوم کی کتب سے بچیں اور یہ بھی واجب ہے کہ جہاں بھی ایسی کتابیں پائیں انہیں ضائع کر دیں کیونکہ یہ کتابیں ایک مسلمان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اسے شرک میں بٹلا کر دینی ہیں اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”جس نے علم نجوم کا کوئی شعبہ سیکھا اس نے (در اصل) جادو کا ایک شعبہ سیکھا“، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو فرشتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ”وَهُكُمْ كُو (جادو) نہیں سکھاتے تھے مگر یہ کہتے تھے کہ یقیناً هم آزمائش ہیں پس تم کفر نہ کرو“، اس سے ثابت ہوا کہ جادو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ لہذا اہل اسلام پر واجب ہے کہ ایسی تمام کتب ضائع کر دیں جو جادو اور علم نجوم کی تعلیم پر مشتمل ہیں۔ اور کسی طالب علم یا اس کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے ان کتابوں کو پڑھنا یا جو کچھ ان میں سے اسے سیکھنا، حرام نہیں۔^(۳)

[١) صحيح: السلسلة الصحيحة (٢١٩٥) صحيح الترغيب (٤١) غاية المرام (٣٠) رواه البزار والطبراني]

(٢) [بخاري (٦٨٥٧) كتاب الحدوذ: باب رمي المحسنات، مسلم (٢٥٨) أبو داود (٢٨٧٤)]

[٣] فتاوى نور على الدرج لابن باز (١٩٢/١)

الْفَوْلَةُ تَهْنِمُ الْجَنَّةَ تَلْغِيَّهُ

کیا جنات انسان کو اٹھا کر لے جاسکتے ہیں؟

حضرت عمر بن حفظی کے دور میں جنوں نے ایک شخص کو اٹھا لیا اور وہ چار سال تک ان کے پاس رہا۔ پھر آیا تو اس نے بتایا کہ اسے مشرک جن اٹھا کر لے گئے تھے تو وہ ان کے پاس قیدی بنا رہا۔ پھر مسلمان جنوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دینے کے بعد اسے اس کے اہل و عیال کی طرف واپس لوٹایا۔^(۱)

درج بالا صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن انسان کو اٹھا کر لے جاسکتے ہیں البتہ اہل علم کا کہنا ہے کہ ایسا بہت کم واقع ہوتا ہے۔

جنات قابو کرنے کی حقیقت

علمدوں اور کاہنوں کے متعلق بالعلوم یہ مشہور ہے کہ انہوں نے جن قابو کر کر کھے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ بیاد رہے کہ یہ بات سوائے عظیم جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت صرف سلیمان علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی تھی اور جنات کو ان کے تابع کیا تھا۔ چنانچہ وہ جنات سے مختلف قسم کی خدمات لیتے تھے اور ان میں جو نافرمان ہوتے انہیں سرزادیتے اور بعض کو پابند سلاسل کر کے قید میں بھی ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ

﴿فَسَعَّرَ نَالَهُ الرَّسِّيْحُ تَبَرِّجِيْ بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾^(۲) وَ الشَّيْطَيْنُ لُكْلَ بَنَاءً وَغَوَّاصِيْ^(۳) وَ اخْرِيْنَ مُقْرَنِيْنَ فِي الْأَضْفَادِ^(۴) ﴿[ص: ۳۶-۳۸]﴾ پس ہم نے ہوا کوان (سلیمان علیہ السلام) کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے زمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اور (طاقوت) جنات کو بھی (ان کا ماتحت کر دیا) ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ اور دوسرا جنات کو بھی جوز بجیروں میں جکڑے رہتے۔

سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کی تسبیح بھی دراصل ان کی اس دعا کا نتیجہ تھی:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْتَعِي لَا حِلْمٌ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾^(۵) ﴿[ص: ۳۵]﴾ ”اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرماجو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے۔“

اس لیے سلیمان علیہ السلام کے بعد نہ تو جنات کو کسی کے تابع کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی انہیں قابو کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک جن بی کریم علیہ السلام کو نماز میں شگ کرنے آیا اور آپ نے اسے پکڑنے کے ارادہ کیا تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آگئی کہ ”اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرماجو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔“ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو شیطان صبح بندھا ہو امتا اور اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔^(۶)

(۱) [صحیح]: رواء الغلیل (۱۷۰۹)، (۱۵۰۶) بیہقی (۴۴۶-۴۵۱۷)

(۲) [مسلم]: کتاب المساجد و مواضع الصلاة: باب جواز لعن الشیطان فی اثناء الصلاة

معلوم ہوا کہ جنات بھی کریم ﷺ کے قبضہ و قابوں میں بھی نہیں تھے تو کسی اور انسان کے قابوں میں کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جنات بعض عاملوں اور جادوگروں کی بات مانتے ہیں (مثلاً ان کے کہنے پر کسی کو تھنگ کرنا، یہاں کرنا یا قتل کرنا وغیرہ) لیکن اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے جنات کو قابوں میں کیا ہوا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ جنات ان سے راضی ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جنات کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑے گناہ اور کفر و شرک تک کار تکاب کیا ہوتا ہے۔ تب جا کر جنات و شیاطین ان کے تعاون پر راضی ہوتے ہیں۔ اور اگر جادوگر گناہ کرنا چھوڑ دے تو جنات بھی اس کا تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں درحقیقت جنات کو قابو کرنے کے بجائے جادوگر خود جنات کے قابو میں آیا ہوتا ہے کہ اپنا کام نکلوانے اور اپنے مذموم مقاصد کی تجھیل کے لیے اسے مجبوراً جنات و شیاطین کی ہربات مانی پڑتی ہے حتیٰ کہ شرک تک کرنا پڑتا ہے۔

کیا علیٰ جن نے کسی جن سے لڑائی کی تھی؟

شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں الہذا نتوعلیٰ جن نے کسی جن سے لڑائی کی تھی اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا تھا بلکہ یہ بات جھوٹی اور من گھڑت ہے ہے لوگوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے اور ابوالعباس شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ بات جھوٹی اور بے اصل ہے اور ایسی باطل روایتوں میں سے ہے جسے کذاب لوگوں نے گھڑ رکھا ہے۔^(۱)

سوتے میں ڈرنے والے کا علاج

بالعموم انسان سوتے میں یا تو اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ کوئی ڈراؤن خواب دیکھ لیتا ہے۔ یا پھر اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ کوئی جن سے تھنگ کرنے اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اگر تو کوئی ڈراؤن اور برآخوب دیکھ لے تو اولًا یہ یاد رکھے کہ برآخوب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور ایسا خواب کسی کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ باعیں جانب تین مرتبہ تھوکے۔ پھر تین مرتبہ شیطان اور اس برے خواب کے شر سے پناہ مانگے اور پھر پہلو بدل کر لیٹ جائے^(۲) اور اگر انہوں کروضوکرے اور دور کعت نفل نماز پڑھ سکے تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ ایسا کرنے سے ان شاء اللہ اس کی گھبراہٹ اور ڈرختم ہو جائے گا۔^(۳)

اور اگر کسی کو سوتے میں جن وغیرہ تھنگ کرنے کی کوشش کرے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سوتے وقت اذکار ضرور کرے۔ جیسا کہ آیت الکریمی کے متعلق حدیث میں موجود ہے کہ جو بھی سوتے وقت آیت الکریمی پڑھتا ہے

(۱) [مجموع فتاویٰ ابن باز (۲۷۷۹)]

(۲) [بخاری (۶۹۹۵) کتاب التعبیر: باب من رأى النبي في المنام ، مسلم (۲۲۶۱) ابو داود (۵۰۲۱)]

(۳) [بخاری (۷۰۱۷) کتاب التعبیر: باب القيد في المنام ، مسلم (۲۲۶۲) ترمذی (۲۲۷۰)]

ساری رات شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔^(۱) اسی طرح سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورۃ الناس بھی ضرور پڑھے^(۲) اور پھر سونے کی یہ دعا ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَمْوَالًا وَأَحْيَا﴾ ”اے اللہ! اتیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا (یعنی سوتا) ہوں اور زندہ (یعنی بیدار) ہوتا ہوں۔“^(۳) پڑھ کر دائیں کروٹ پرسو جائے۔ اور اگر ان تمام تدابیر کے باوجود انسان کبھی نیند میں گھبرا جائے تو نبی کریم ﷺ نے اسے یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے:

﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الظَّانِمَةِ مِنْ عَذَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ حَمَّارَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ﴾

”میں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ ظانِمہ کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب سے اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسے سے اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔“^(۴)

علاوه ازیں اگر سوتے میں گھبراہٹ کی بیماری کی جسمانی مرغ کی وجہ سے ہو مثلاً انس کی تکلیف یا جسمانی کمزوری وغیرہ تو اس کا طبی علاج معاجلہ کرانا چاہیے۔

نظر بدیا جاؤ کی معرفت کے لیے جنات سے تعاون لینا

سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے کسی مرض یا اس کے علاج کی معرفت کے متعلق جنات کا تعاون لینے کو ناجائز اور شرک قرار دیا ہے اور بطور دليل اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشادات لفظ فرمائے ہیں:

(۱) ﴿وَآئَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسَنِ يَعْوُذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَرَأُدُوهُمْ رَهْقَانِ﴾ [الجن : ۶]

”بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔“

(۲) ﴿وَيَوْمَ يَخْشُرُ هُنْ مُجْمِعِيًّا يُمْعَنَّثُ الْجِنُّ فِي اسْتَكْثَرَتْ مُمْنَّ مِنَ الْإِنْسَنِ وَقَالَ آؤْلَيُوْهُمْ مِنَ الْإِنْسَنِ رَبَّنَا اسْتَمْبَعَ بِعُضْنَا بِعَضٍ وَّبَلَغَنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْنَا لَنَا﴾ [الانعام : ۱۲۸] ”اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، (کہے گا) اے جنات کی جماعت! تم نے انسانوں میں سے بہت سے پناہیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہاے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک نے دوسرا سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آپنچھ جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔“

کمیٹی کا کہنا ہے کہ ”ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے“ سے مراد یہ ہے کہ انسانوں نے جنات کی تعظیم کی، ان کے لیے جھک گئے اور ان کی پناہ کپڑی اور بدالے میں جنات نے انسانوں کی خدمت کی اور ان کے

(۱) [بخاری (۲۳۱۱)، (۲۳۷۵)، (۵۰۱۰)، (۳۲۷۵)] کتاب الوکالۃ: باب اذا وکل رجلا فترك الوکيل شيئاً

(۲) [بخاری (۵۰۱۷) کتاب فضائل القرآن: باب فضل المعوذات]

(۳) [بخاری (۶۳۱۴) کتاب الدعوات: باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الایمن، ابو داود (۵۰۴۹)]

(۴) [حسن: البصیحة (۲۶۴) ابو داود (۳۸۹۳) کتاب الطب: باب كيف الرفق، احمد (۱۸۱۲)]

مطالبات پورے کیے۔ نیزان کا مختلف امراض اور ان کے اسباب (جن کی خبر انسانوں کے سوا صرف جنوں کو ہی ہوتی ہے) کی انسانوں کو خبر دینا بھی اسی قبیل سے ہے۔^(۱)

نظر بد دور کرنے کے لیے بیوی کی طرف سے بکری کی قربانی

سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی سے کسی نے دریافت کیا کہ ہمارے ہاں شادی کے بعد ہر سال بیوی کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی جاتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے بیوی اور اولاد و حسد، مصائب، امراض (اور نظر بد) وغیرہ سے محفوظ رہے گی، تو اس کا کیا حکم ہے؟

کمیٹی نے جواب دیا کہ شادی کے بعد ہر سال اس نیت سے بکری کی قربانی کرنا کہ یہ چیز انہیں حسد، امراض اور مصائب سے بچائے گی، حرام عمل اور باطل اعتقاد ہے اور اگر اس کا نام صدقہ رکھ دیا جائے تو بھی یہ جائز نہیں، نیز یہ ذرائع شرک میں سے بھی ہے لہذا اسے چھوڑنا، اس سے توبہ کرنا اور اکیلے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا واجب ہے کیونکہ خیر لانے اور تقصیان دور کرنے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔^(۲)

(۱) [فتاویٰ الحجۃ الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (۹۳/۱)]

(۲) [فتاویٰ الحجۃ الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (۳۰۶/۲)]

جادو جنات اور نظر بد سے متعلقہ
چند ضعیف احادیث کا بیان

باب الاحادیث الضعیفة
عن السحر والجنان والعين

(۱) ﴿كُلُّ دَارٍ فِيهَا دِيكٌ أَيْضُّ لَا يَقْرِبُهَا الشَّيْطَانُ وَ لَا سَاجِرٌ﴾ ”ہر دگر جس میں سفید مرغ ہو شیطان اور جادوگر اس کے قریب نہیں آتا۔“^(۱)

(۲) ﴿كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ جَلَّ وَعَزَ عَشْرَةً مِنْ هُنْدِهِ الْأُمَّةِ: الْغَالُ، وَ السَّاجِرُ، وَ الدَّيْوَثُ، وَ نَاسِكُ الْمَرَأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ، وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَ مَاتَ وَلَمْ يَحْجُّ، وَ السَّاعِي فِي الْفَتْنَى وَ بَائِعُ السَّلَاحِ أَهْلَ الْحَرْبِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرُمٍ مِنْهُ﴾ ”اس امت کے دس افراد نے اللہ عزوجل کے ساتھ کفر کیا ہے؛ مال غنیمت میں خیانت کرنے والا، جادوگر، دیوث، عورت کی پشت میں ہم بستری کرنے والا، شراب خور، زکوہ رونکنے والا، وسعت کے باوجود حجج کیے بغیر فوت ہو جانے والا، فتوں (کو پھیلانے) میں دوڑھوپ کرنے والا، جنگی دشمنوں کو اسلحہ فروخت کرنے والا اور کسی محروم شہزادے کا نکاح کرنے والا۔“^(۲)

(۳) ﴿تَعَلَّمُوا السَّحْرَ وَ لَا تَعْمَلُوا بِهِ﴾ ”جادو کیوں لوگر اس پر عمل نہ کرو۔“^(۳)

(۴) ﴿الْغَيْلَانُ سَحْرَةُ الْجِنِّ﴾ ”غیلان (جنات کی ایک خاص قسم) جنوں کے جادوگر ہیں۔“^(۴)

(۵) ﴿نَهَىٰ عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ﴾ ”آپ ﷺ نے جنات کے ذبحوں سے منع فرمایا ہے (یعنی گھروغیرہ خریدنے پر وہاں جنات سے بچاؤ کے لیے پرندے ذبح کرنا)۔“^(۵)

(۶) ﴿نَهَىٰ عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ﴾ ”آپ ﷺ نے جن سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔“^(۶)

(۱) [موضوع: السلسلة الضعيفة (۱۶۹۵)]

(۲) [موضوع: السلسلة الضعيفة (۲۰۰۵)]

(۳) لا اصل له: شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باطل اور بے اصل ہے اور نہ تو جادو یا کھانا جائز ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا بلکہ یہ کفریہ کام اور سماں گمراہی ہے۔ [مجموع فتاویٰ (۳۷۱۶)] سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی اس خبر کو من گھر کر کہا ہے۔ [فتاویٰ اللجنۃ الدالمة (۵۵۱۱)] شیخ مشہور حسن آل سلمان فرماتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے کیونکہ اس کی کوئی سند ہی نہیں بلکہ یہ تو کسی شاعر کا ایک لکھرا ہے اور وہ شعریوں ہے ”العلم بالشیء خیر من الجهل به و تعلموا السحر ولا تعملوا به۔“ [فتاویٰ الشیخ مشہور بن حسن آل سلمان (۶۱۱)]

(۴) [ضعف: السلسلة الضعيفة (۱۸۰۹)]

(۵) [موضوع: السلسلة الضعيفة (۲۴۰)] الموضوعات لابن الجوزی (۲۰۲۲)

(۶) [منکر: السلسلة الضعيفة (۶۵۵۹)]

صِعْدَةُ احْدَادِيَّةٍ كَابِيَانٌ

- (7) ﴿شَيَاطِينُ الْأَنْسِ تَغْلِبُ شَيَاطِينَ الْجِنِّ﴾ "انسانی شیاطین جناتی شیاطین پر غالب ہیں۔" (۱)
- (8) ﴿الْعَيْنُ حَقٌّ وَ يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ وَ حَسَدُ ابْنُ آدَمَ﴾ "نظر بد بر جن ہے اور اس میں شیطان اور ابن آدم کا حسد موجود ہوتا ہے۔" (۲)
- (9) ﴿مَا أَئَعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِنِعْمَةَ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ فَيَقُولُ "مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" فَيَرَى فِيهِ آفَةً دُونَ الْمَوْتِ﴾ "جس بندے پر اللہ اپنی کوئی نعمت انعام فرمائے اہل دعیاں ہوں، وہ تنہی ہو یا اولاد، پھر وہ یہ کلمہ کہے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو اس میں کوئی آفت نہیں آئے گی سوائے موت کے۔" (۳)
- (10) ﴿مَنْ رَأَى شَيْئًا يُعِجبُهُ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَمْ تَضُرِّ الْعَيْنُ﴾ "جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو کہہ "مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" تو اسے نظر بد نہ صان نہیں پہنچائے گی۔" (۴)
- کہ جنات و شیاطین سے متعلقہ مزید ضعیف روایات دیکھنے کے لیے یہاڑی احادیث ضعیفہ سیریز کی پانچویں کتاب "500 مشور ضعیف احادیث" ملاحظہ فرمائیے، جس میں مختلف موضوعات پر مشتمل معاشرے میں میں مشہور 500 ضعیف روایات بمعہ تخریج و تحقیق جمع کی گئی ہیں۔

-
- (۱) ا موضوع : الاسرار المروفة (ص : ۲۲۸) (۲) المصنوع (ص : ۱۱۵) (۳) کشف الحفاء (۱۷/۲)
- (۴) [ضعیف : ضعیف الحجامع الصغير (۲) (۳۹۰) (۳) السلسلة الضعيفة (۲۲۶)]
- (۵) [ضعیف : البداية واللہاۃ (۱۴۱/۲) (۳) المطالب العالية (۳۵۰)] امام یعنی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں عبد . الملک بن زرارہ راوی ضعیف ہے۔ [مجمع الروايد (۱۷۱۵/۱)] شیخ عبدالرزاق مہدی نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ [تحقیق علی نقشبند ابن کثیر]
- (۶) [ضعیف : ضعیف الحجامع الصغير (۵۵۸۸) تذكرة الموضوعات (ص : ۲۰۷) ذخیرۃ الحفاظ (۵۳۰/۵)]

سیریز تفہیم کتاب و سنت

زندگی کے ہر شعب کے متعلق مکمل دینی رہنمائی پر مشتمل تحقیقی کتب




اگر آپ قرآن کریم، صحیح احادیث اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق مکمل دینی معلومات حاصل کرنا چاہئے میں تو ہماری تفہیم کتاب و سنت سیریز کی درج ذیل متند کتب فراہم اٹھائے گئے۔

اس سیریز کی چند خصوصیات

- » اپنے اپنے مخصوص پر جامع کتب۔
- » ابتداء میں چند ضروری اصطلاحات حدیث۔
- » مسائل میں کتاب و سنت کے علاوہ ائمہ اربعہ کے موقف کی وضاحت۔
- » کتاب علم و فقہا کے احوال و فتاوی۔
- » تمام مسائل بادا لائل۔
- » تمام حوالہ جات کی مکمل تجزیع۔
- » شیخ البانی "اور دیگر تحقیقین کی تحقیقات سے استفادہ۔
- » ان خصوصیات کی بنا پر تیسیٹی کتب ہر لائبریری اور ہر گھر کی ضرورت ہیں لہذا انہیں خود بھی حاصل کریں اور دوسروں سکتے ہیں پہنچائیں۔

- | | |
|----|---------------------------|
| ۱ | ایمان کی کتاب |
| ۲ | توحید کی کتاب |
| ۳ | سنن کی کتاب |
| ۴ | ہمارت کی کتاب |
| ۵ | نمازی کتاب |
| ۶ | زکوٰۃ کی کتاب |
| ۷ | روز روں کی کتاب |
| ۸ | حج و عمرہ کی کتاب |
| ۹ | جنائز کی کتاب |
| ۱۰ | تجارت کی کتاب |
| ۱۱ | نکاح کی کتاب |
| ۱۲ | طلاق کی کتاب |
| ۱۳ | اولاد اور والدین کی کتاب |
| ۱۴ | دعاؤں کی کتاب |
| ۱۵ | جادو جنات سے بچاؤ کی کتاب |
| ۱۶ | شیطان سے بچاؤ کی کتاب |
| ۱۷ | حباری ہے۔ |

ہماری چند دوست کتب مجموعات





فُقْهُ الْحَدِيثِ

FIQHULHADITH

Islamic Research Foundation

- * ہماری تمام مطبوعات کی تفصیل کے لیے
- * انگلش اور اردو میں قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے لیے
- * گھر بیٹھے آن لائن قرآن (بعد تجوید، ترجمہ، تفسیر، گرامر وغیرہ) سیکھنے کے لیے
- * مفت فقہ الحدیث اور دیگر اہم کتابیں پڑھنے کے لیے
- * مفت اسلامی کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے
- * روزمرہ زندگی کے مسائل کے حل کے لیے
- * جدید فقہی مسائل دیکھنے کے لیے
- * علمی و تحقیقی مصاہین پڑھنے کے لیے
- * اسلامی ویب سائیٹس کے لئے حاصل کرنے کے لیے

اللہی و زنٹ گیجھے

WWW.FIQHULHADITH.COM


۱۹۷۸ء ... جے ماں ناول

تمہارے

www.KitaboSunnat.com

کتابِ اوقاتِ من حسن الحسن

جادو جنات سے بچاؤ
کی کتاب



جادو کرنا اور کام کے ذریعے جنات کا تباون حاصل کر کے لوگوں کو کمالیف پہنچانا شریعتِ اسلامیہ کی رو سے محض کبیرہ گناہ ہی نہیں بلکہ ایسا مضموم قابل ہے جو انسان کو وارثہ اسلام سے عی خارج کر دیتا ہے اور اسے واجبِ اقتضیت بنادیتا ہے۔

● جادو کی اس تدریشیدہ نعمت کے باوجود آج یعنی عمل بالعلوم عالم اسلام اور بالخصوص بر صفت پاک و مدنی میں بڑی تیزی سے روان پارہا ہے۔ جگہ جگہ علوم، تجویزیں، کامیابیوں اور جعلی یحودیوں کے اذے بن چکے ہیں جو قحطے سے دنیوی نفع کے لیے لوگوں کی زندگیاں برداشت نے سے درپیش نہیں کرتے۔ پھر جو لوگ جادو کا فکار ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر دین سے غافل ہوتے ہیں اسی لیے وہ بھی عصلان کے لیے اپنی لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو خود بھی گستاخ ہیں اور اسادہ لوحِ عوام کی گستاخی کا بھی سبب ہیں۔

● اس کتاب میں اسی اہم موضوع پر خاصہ فرمائی کی گئی ہے اور کتاب دست کی روشنی میں جادو جنات کی تحقیق کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ جادو، آسیبِ زدگی اور نظر پر وسیعیہ کا شرعی علاج بھی جو بیرون کیا گیا ہے۔ نیز ان مصائب سے بچاؤ کی پیشگوئی خلقی تدبیر بھی ذکر کی گئی ہیں۔

● اس کتاب کی اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں کتاب دست کی تعلیمات اور اخراج ساف کے قلم سے کہیں بھی اخراج فہریں کیا گیا، بطور خاص امام اہن تھے اور امام اہن تھے کے تحریکات سے استفادہ کیا گیا ہے، تمام عوالم جات کی تحریک و تحقیق کی گئی ہے اور حاصل فہرست اسلوب اپنالیا گیا ہے تا کہ عوام و خواص یکساں استفادہ کر سکتیں۔

● ان خصوصیات کی بنابریا شہریہ کتاب ہر قرڈ کی ضرورت ہے اور جادو جنات اور نظر پر کے علاج اور ان سے بچاؤ کے لیے بہترین انتہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو عامة الناس کے لیے نافع اور مصنف کے لیے باعث اجر بنائے۔ (آمين)

ڈاکٹر حمزہ مدنی

مدیرِ انتہا، بامدادِ ہبہ اسلام پر (البیت انتہا) الہور

J 19



4 650410 001157